

# Ġhāyatu al-Ijābati

Fī

## Manāqibi al-Qarābati ﷺ

﴿Ahle Baite Athār salāmu Allāhi ‘alayhim ke Fazā’il-o Manāqib﴾

Shayḵh al-Islām

al-Duktūr Muḥammad Ṭāhir al-Qādirī

Roman Urdū Ṭrānsliṭāreṭar

Dīwān Mōḥsin Shāh



مَوْلَايَ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

وَ الْاٰلِ وَ الصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ

اَهْلُ التَّقِي وَ النُّقْيِ وَ الْحِلْمِ وَ الْكِرَمِ

﴿ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

# FİHRIS

al-Raqm	al-Abwāb	al-Şafḥah
1	<p>مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ قَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>﴿Ḥuzūr Nabīye Akram ﷺ Ke Ahle Bait Aur Qarābat-Dāron Ke Manāqib﴾</p>	22
2	<p>مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامٌ لِلَّهِ عَلَيْهَا</p> <p>﴿Sayyida'e Kā'enāt Fāṭimah Zahrā' Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke Manāqib﴾</p>	83
3	<p>مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p> <p>﴿Ḥazrat 'Alī Bin Abī Ṭālib Raḍiya Allāhu 'Anhumā Ke Manāqib﴾</p>	140
4	<p>مَنَاقِبُ الْحَسَنِينِ الْكَرِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ</p> <p>﴿Ḥasanayn Karīmayn 'Alayhimā Al-Salām Ke Manāqib﴾</p>	226

al-Raqm	al-Abwāb	al-Ṣafḥah
5	<p>مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ</p> <p>﴿Ummahātu al-Mu'minīn Raḍiya Allāhu 'Anhunna Ke Manāqib﴾</p>	283
6	<p>مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ</p> <p>السَّلَامُ</p> <p>﴿Imām Muḥammad Mahdī 'Alayhi Al-Salām Ke Manāqib﴾</p>	354
❁	Maṣādir Al-Taḫrīj	395

# FIHRIS

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
1	<p><u>الْبَابُ الْأَوَّلُ :</u></p> <p>مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ قَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Ke Ahle Bait Aur Qarābat-Dāron Ke Manāqib﴾</p>	22
1	<p>فَصْلٌ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ بَيْتِهِ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kī Apne Ahle Bait Ke Bāre Meñ Waṣīyat Kā Bayān﴾</p>	23
2	<p>فَصْلٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيَّ حُبِّهِمْ</p> <p>﴿Ḥuḏūr ﷺ Kā Logon Ko Maḥabbate Ahle Bait Par Ubhārne Kā Bayān﴾</p>	30

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Safḥah
3	<p>فَصَلِّ فِي مَشْرُوعِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ ﷺ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kī Itteebā' Meñ Āp ﷺ Ke Ahle Bait Par Durūd Bhejne Kā Bayān﴾</p>	44
4	<p>فَصَلِّ فِي بَشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَجَزَائِهِ ﷺ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kā Apne Ahle Bait Ko Jannat Kī Bashārat Dene Aur Un Se Nekī Karne Wāloñ Ko Jazā' Dene Kā Bayān﴾</p>	50
5	<p>فَصَلِّ فِي أَنَّهُمْ أَمَانٌ وَنَجَاةٌ لِأُمَّتِهِ ﷺ</p> <p>﴿Ahle Baite Aṭḥār Kā Āp ﷺ Kī Ummat Ke Liye Bā'ise Amān Aur Najāt Hone Kā Bayān﴾</p>	53

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
6	<p>فَصْلٌ فِي تَحْذِيرِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بُغْضِهِمْ وَ عَدَاوَتِهِمْ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kā Apne Ahle Bait Se Buḡḥz-o 'Adāwat Rakhne Se Ḍarāne Kā Bayān﴾</p>	60
7	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقَرَابَةِ</p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Ke Ahle Bait Aur Qarābat-Dāron Ke Jāme' Manāqib Kā Bayān﴾</p>	68
2	<p><u>أَلْبَابُ الثَّانِي :</u></p> <p>مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا</p> <p>﴿Sayyida'e Kā'enāt Fāṭimah Zahrā' Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke Manāqib﴾</p>	83

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
1	<p>فَصَلِّ فِي كَوْنِ آلِ فَاطِمَةَ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَهْلِ كِسَاءٍ</p> <p>﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke Gharāne Kā Ahle Bait Aur Ahle Kishā' Hone Kā Bayān﴾</p>	84
2	<p>فَصَلِّ فِي كَوْنِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا بَضْعَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْوَصِيَّةِ</p> <p>﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Kā Laḵhte Jigare Muṣṭafá Hone Kā Bayān﴾</p>	89
3	<p>فَصَلِّ فِيْمَكَانَتِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَصِيَّةِ</p> <p>﴿Ḥuẓūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār- Gāh Meñ Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾</p>	96



al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
4	فَصَلِّ فِي كَوْنِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا سَيِّدَةَ نَسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Kā Sāre Jahānoñ Kī 'Auratoñ Kī Sardār Hone Kā Bayān﴾	105
5	فَصَلِّ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَاجِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Kī Shādī Se Muta'alliqah Umūr Kā Bayān﴾	112
6	فَصَلِّ فِي مَكَانَتِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿Roze Qiyāmat Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾	118
7	فَصَلِّ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا	125

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
3	<p>﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi ‘Alayhā Ke Jāme’ Manāqib Kā Bayān﴾</p> <p style="text-align: right;"><b>الْبَابُ الثَّلَاثُ :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</b></p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Bin Abī Ṭālib Raḍiya Allāhu ‘Anhumā Ke Manāqib﴾</p>	140
1	<p>فَصَلِّ فِي كَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَصَلَّى</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Kī Qubūle Islām Aur Namāz Paṛhne Meñ Awwaliyat Kā Bayān﴾</p>	141

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
2	<p>فَصَلِّ فِي مَكَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Al-Murtaḍá Raḍiya Allāhu ‘Anhu Kā Ḥuẓūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār-Gāh Meñ Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾</p>	147
3	<p>فَصَلِّ فِي كَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Kā Ahle Bait Meñ Se Hone Kā Bayān﴾</p>	166
4	<p>فَصَلِّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ</p> <p>﴿Farmāne Muṣṭafá ﷺ: Jis Kā Maiñ Mawlā Hūn Us Kā Mawlā ‘Alī Hai﴾</p>	174
5	<p>فَصَلِّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي</p>	194

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
6	<p>﴿Ḥubbe ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Ḥubbe Muṣṭafá Hai Aur Buḡhẓe ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Buḡhẓe Muṣṭafá ﷺ Hone Kā Bayān﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِلْمِيَّة</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Ke ‘ilmī Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾</p>	202
7	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Kī Jāme‘ Ṣifāt Aur Manāqib Kā Bayān﴾</p>	206
4	<p>أَلْبَابُ الرَّابِعُ :</p> <p>مَنَاقِبُ الْحَسَنَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ</p>	226

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Safḥah
1	<p style="text-align: center;">﴿Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Ke Manāqib﴾</p> <p style="text-align: center;">فَصْلٌ فِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمَا وَ أَذَانِهِ فِي أُذُنَيْهِمَا وَ عَقِيْقَتِهِ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ</p> <p style="text-align: center;">﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kā Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kā Nām Rakhne, Un Ke Kānoñ Meñ Azān Dene Aur Un Kī Ṭaraf Se ‘Aqīqah Karne Kā Bayān﴾</p>	227
2	<p style="text-align: center;">فَصْلٌ فِي أَنَّهْمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ خَيْرِ النَّاسِ نَسَبًا</p> <p style="text-align: center;">﴿Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kā Ahle Bait Meñ Se Hone Aur Nasab Ke E‘tebār Se Tamām Logoñ Se Beh-Tar Hone Kā Bayān﴾</p>	233

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
3	<p>فَصَلِّ فِي كَوْنِ حُبِّهِمَا حُبَّ النَّبِيِّ وَبُغْضِهِمَا  <b>بُغْضَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَسْطَةَ</b></p> <p>﴿Ḥasanayn Karīmayn Se Maḥabbat Ḥuḏūr ﷺ Se Maḥabbat Aur Ḥasanayn Karīmayn ‘alayhimā Al-Salām Se Buḡḡḥ Ḥuḏūr ﷺ Se Buḡḡḥ Hone Kā Bayān﴾</p>	244
4	<p>فَصَلِّ فِي مَكَانَتَيْهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ  <b>النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَسْطَةَ</b></p> <p>﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār-Gāh Meñ Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Ke Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾</p>	248
5	<p>فَصَلِّ فِيْمَنْ أَحَبَّهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَدْخَلَهُ          اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ</p> <p>﴿Allāh Ta‘ālā Kā Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Se</p>	261

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
	Maḥabbat Karne Wāloñ Ko Jannat Aur Āp Se Buḡhḻ Rakhne Wāloñ Ko Dozaḵ Meñ Dākḥil Karne Kā Bayān﴿	
6	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانَتَيْهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ</p> <p>﴿Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Ke Jannat Meñ Maqām-o Martabah Kā Bayān﴿</p>	264
7	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتَيْهِمَا وَمَنَاقِبَيْهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ</p> <p>﴿Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kī Jāme‘ Şifāt Aur Manāqib Kā Bayān﴿</p>	270
5	<p>الْبَابُ الْخَامِسُ :</p> <p>مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ</p>	283

al-Raqm	<b>al-Abwāb wa-al-Fuṣūl</b>	al-Ṣafḥah
1	<p>﴿Ummahātu al-Mu'minīn Raḍiya Allāhu 'Anhunna Ke Manāqib﴾</p> <p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p> <p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Khadījah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p>	284
2	<p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p> <p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat 'Ā'ishah Ṣiddīqah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p>	302
3	<p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	326



al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Safḥah
4	<p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Ḥafṣah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p> <p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	330
5	<p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Umme Salamah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p> <p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	334
6	<p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Umme Ḥabībah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p> <p>فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p> <p>﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Sawdah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾</p>	337

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
7	فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Zaynab Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾	340
8	فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Maymūnah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾	345
9	فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جَوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Juwarīyah Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾	347
10	فَصَلِّ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا	350

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
6	﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaẓrat Ṣafīyah Raḍīya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾ <u>الْبَابُ السَّادِسُ :</u> مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ	354
1	﴿Imām Muḥammad Mahdī 'Alayhi Al-Salām Ke Manāqib﴾ فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ﴿Sayyidunā Imām Mahdī 'Alayhi Al-Salām Kā Ahle Baite Aṭḥār Meñ Se Hone Kā Bayān﴾	355
2	فَصْلٌ فِي عِلَامَاتِ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿Sayyidunā Imām Mahdī 'Alayhi Al-Salām Ke Zuhūr Kī 'Alāmāt Kā Bayān﴾	359

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Ṣafḥah
3	<p>فَصَلِّ فِي آدَاءِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ صَلَاتَهُ وَرَأَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ</p> <p>﴿Ḥaẓrat ‘Īsá Ibn Maryam ‘Alayhi Al-Salām Kā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Ke Pīḥe Namāz Adā Karne Kā Bayān﴾</p>	367
4	<p>فَصَلِّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا</p> <p>﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Kā Zamīn Ko ‘Adl-o Inṣāf Se Bhar Dene Kā Bayān﴾</p>	371
5	<p>فَصَلِّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَكُونُ خَلِيفَةَ اللَّهِ عَلَي الْإِطْلَاقِ</p> <p>﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Ke ‘Alāl-Iṭlāq Ḳhalīfatullāh Hone Kā Bayān﴾</p>	376

al-Raqm	al-Abwāb wa-al-Fuṣūl	al-Safḥah
6	<p>فَصَلِّ فِي أَنْ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ تُنْعَمُ فِي وَلَايَتِهِ نِعْمَةً لَمْ تُنْعَمْهَا قَطُّ</p> <p>﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Kī Ḳhilāfat Meñ Ummate Muḥammadī Ko Woh Ne‘mateñ Ḥāṣil Hoṅī Jo Use Kabḥī Ḥāṣil Nah Hū’ī Hoṅī﴾</p>	383
7	<p>فَصَلِّ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ صِفَاتِهِ وَ مَنَاقِبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ</p> <p>﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Kī Jāme‘ Ṣifāt Aur Manāqib Kā Bayān﴾</p>	388
﴿	Maṣādir Al-Taḫrīj	395

al-Bābu al-Awwalu:

مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ  
السَّلَامُ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Ke Ahle  
Bait Aur Qarābat-Dāron Ke  
Manāqib﴾

## 1. فَضْلٌ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ بَيْتِهِ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kī Apne Ahle Bait Ke  
Bāre Mein Waṣīyat Kā Bayān﴾

1/1. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا إِنَّ عِيَّتِي الَّتِي آوَى إِلَيْهَا  
أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرَشِي الْأَنْصَارِ. فَأَعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَقْبَلُوا مِنْ  
مُحْسِنِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aagah Ho Ja'o! Mera Jaama-Daan Jis Se Main Aaraam Paata Hoo'n Mere Ahle Bait Hai Aur Meri Jama'at Ansaar Hain. In Ke Buro'n Ko Mu'aaf Kar Do Aur In Ke Nekookaaro'n Se (Achchhaa'i Ko) Qubool Kar Lo.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai Neez Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

---

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/714,  
RAQM-3904,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/399, RAQM-32357,

SHAYBANI FI AL-AHADITH WA'L MATHANI, 03/332, RAQM-1716,

IBN SA'D FI AT-TABQAT-UL-KUBRA, 02/252.

2/2. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِترَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Zayd Bin Thabit RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Main Tum Men Do<sup>2</sup> Naa’ib Chhod Kar Jaa Raha Hoo’n. Ek Allah Ta’ala Kee Kitab Jo Ki Aasman-o Zameen Ke Darmiyan Phaili Hu’i Rassi (Kee Tarh) Hai Aur Meri Itrat Ya’ni Mere Ahle Bait Aur Yeh Ki Yeh Dono’n Us Waqt Tak Harghiz Juda Nahin Honge Jab Tak Yeh Mere Paas Hauze Kawthar Par Nahin Pahonch Jaate.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

3/3. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ ثَمَانِيَةَ أَوْ سَبْعَةَ، ثُمَّ أَوْعَلَ غَدَوَةَ أَوْ رَوْحَةَ ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ هَجَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ وَإِنِّي أَوْصِيكُمْ بِعِترَتِي خَيْرًا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضَ. . . الحديث.

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
05/181, RAQM-21618,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/162.

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA  
SAHIHAYN, 02/131, RAQM-2559.



رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd-ur-Rahman Bin Awf RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Makkah Fat’h Kiya Phir Taa’if Ka Rukh Kiya Aur Us Ka Aath-08 Ya Saat-07 Din Muhaasrah Kiye Rakha Phir Sub’h Ya Shaam Ke Waqt Us Men Daakhil Ho Ga’e Phir Padaao Kiya Phir Hijrat Farmaa’i Aur Farmaya: Ae Logo! Be-Shak Main Tumhare Liye Tum Se Pehle Hauz Par Maujood Hounga Aur Be-Shak Main Tumhe’n Apni Itrat Ke Saath Neki Kee Wasiyyat Karta Hoo’n Aur Be-Shak Tumhara Thikaana Hauz Hoga..... Al-Hadith.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

4/4. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنْ اتَّبَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي عِترَتِي. ثُمَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Logo! Main Tum Men Do<sup>2</sup> Cheeze’n Chhod Kar Jaane Waala Hoo’n Aur Agar Tum Un Kee Ittaba’ Karoge To Kabhi Gumraah Nahin Howoge Aur Woh Do<sup>2</sup> Cheeze’n Kitabullah Aur Mere Ahle Bait Hain Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Tum Jaante Ho Main Mominin Kee Jaano’n Se Badh Kar Un Ko Aziz Hoo’n Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Aisa Teen<sup>3</sup> Martaba Farmaya. Sahaba’e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’in Ne Arz Kiya: Ha’n Ya RasoolAllah ﷺ! To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo’n Ali Bhi Us Ka Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

5/5. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قَرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Jab Yeh Aayat: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ Naazil Hu’i To Sahaba’e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’in Arz Kiya: Ya

---

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/47, RAQM-264I,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/I68.

RasoolAllah ﷺ! Aap Kee Qaraabat Kaun Hain Jin Kee Mahabbat Ham Par Waajib Hai? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ali, Fatimah Aur Un Ke Do<sup>2</sup> Bete (Hasan Wa Husayn).”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

6/6. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِي الثَّقَلَيْنِ. فَنَادَى مُنَادٍ وَمَا الثَّقَلَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ طَرْفٌ بِيَدِ اللَّهِ وَ طَرْفٌ بِأَيْدِيكُمْ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا، وَالْآخِرُ عِزَّتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَيْرِ نَبَأَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، سَأَلْتُ رَبِّي ذَلِكَ لَهُمَا، فَلَا تَقَدِّمُوهُمَا فَتَهْلِكُوا، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، وَلَا تَعْلَمُوهُمَ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِي فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ اللَّهُمَّ، وَإِلَ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Ek Tawil Riwayat Men Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Pas Yeh Dekho Ki Tum Do<sup>2</sup> Bhaari Chizo’n Men Mujhe Kaise Baaqi Rakhte Ho. Pas Ek Needa Dene Waale Ne Needa Dee Ya RasoolAllah ﷺ! Woh Do<sup>2</sup> Bhaari Cheeze’n Kya Hain? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Ta’ala Kee Kitab Jis Ka Ek Kanaara Allah Ta’ala Ke Haath Men Aur Doosra Kanaara Tumhaare Haatho’n Men Hai Pas Agar Tum Ise Mazbooti Se Thaame Raho To Kabhi Bhi Gumraah

Nahin Howoge Aur Doosri Cheez Meri Itrat Hai Aur Be-Shak Us Latif Khabir Rabb Ne Mujhe Khabar Dee Hai Ki Yeh Dono'n Cheeze'n Kabhi Bhi Juda Nahin Hongi Yaha'n Tak Ki Yeh Mere Paas Hauz Par Haazir Hongi Aur Aisa Un Ke Liye Main Ne Apne Rabb Se Maanga Hai. Pas Tum Log Un Par Pesh Qadami Na Karo Ki Halaak Ho Ja'o Aur Na Hee Un Se Pichhe Raho Ki Halaak Ho Jaao Aur Na Un Ko Sikhaao Kyu'n Ki Yeh Tum Se Ziyaada Jaante Hain Phir Aap Sallallahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Liya Aur Farmaya: Pas Main Jis Kee Jaan Se Badh Kar Use Aziz Hoo'n To Yeh Ali Us Ka Mawla Hai Ae Allah! Jo Ali Ko Apna Dost Rakhta Hai Too Use Apna Dost Rakh Aur Jo Ali Se Adawat Rakhta Hai Too Us Se Adawat Rakh."

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

717. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ أَنْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِعِزَّتِي خَيْرًا، وَأَنْ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُهَيِّمَنَّ الصَّلَاةَ وَلَتَوُتَنَّ الزَّكَاةَ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي. أَوْ كَنَفْسِي يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ. ثُمَّ أَخَذِيْدِ عَلِيٍّ ﷺ فَقَالَ: بِهَذَا. رَوَاهُ الْبَرْزَارُ.

"Hazrat Mus'ab Bin Abd-ur-Rahman Bin Awf Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram Sallallahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Makkah Fat'h Kiya Us Ke Ba'd Aap

SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Taa’if Kee Taraf Rawaana Huwe Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Satrah-17 Din Ya Unnis-19 Din Taa’if Ka Muhaasarah Kiye Rakha Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Khitaab Ke Liye Khade Huwe Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Allah Ta’ala Kee Hamd-o Sana’ Bayan Kee Phir Farmaya: Main Apni Itrat Ke Baare Men Tumhe’n Bhalaa’i Kee Wasiyyat Karta Hoo’n Aur Be-Shak Tumhaara Thikaana Hauze Kawthar Hoga Aur Namaz Qaa’im Karoge Aur Zakaat Ada Karoge Ya Main Tumhari Taraf Ek Aise Aadami Ko Bhejunga Jo Mujh Men Se Hai Ya Meri Tarh Ka Hai Aur Jo Tumhaari Gardane Maarega Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Heath Pakda Aur Farmaya: Us Aadami Se Meri Muraad Yeh Hai.”

Is Hadith Ko Imam Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

## 2. فَضْلٌ فِي حَتِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَي حُبِّهِمْ

﴿Huzūr ﷺ Kā Logon Ko Mahabbate Ahle Bait  
Par Ubhārne Kā Bayān﴾

8/8. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَعْذُوكُمْ مِنْ نِعْمِهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Ta’ala Se Mahabbat Karo Un Ne’maton Kee Waj’h Se Jo Us Ne Tumhe’n Ata Farmaa’i Aur Mujh Se Mahabbat Karo Allah Kee Mahabbat Ke Sabab Aur Mere Ahle Bait Se Meri Mahabbat Kee Khaatir Mahabbat Karo.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Niz Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

---

AL-HADITH RAQM 8: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/664,  
RAQM-3789,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/162, RAQM-4716,

BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN, 01/366, RAQM-408.

9/9. عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّْي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Abbas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Farmate Hain Ki Ham Jab Quraysh Kee Jama’at Se Milte Aur Woh Baaham Guftugu Kar Rahe Hote To Guftugu Rok Dete Ham Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Is Amr Kee Shikaayat Kee To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Logo’n Ko Kya Ho Gaya Hai Jab Mere Ahle Bait Se Kisi Ko Dekhte Hain To Guftugu Rok Dete Hain? Allah Rabb-ul-Izzat Ki Qasam! Kisi Shakhs Ke Dil Men Us Waqt Tak Imaan Daakhil Nahin Hoga Jab Tak Un Se Allah Ta’ala Ke Liye Aur Mere Qaraabat Ki Waj’h Se Mahabbat Na Kare.”

Ise Imam Ibn Majah Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/50, RAQM-140,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/85, RAQM-6960,

MAQDISI FI AL-AHADITH-UL-MUKHTARAH, 08/382, RAQM-472,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 04/113, RAQM-6350,

SUYOOTI FI SHARH SUNAN IBN MAJAH, 01/13, RAQM-140.

10/10. عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِيَتْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَقُواهُمْ بِبِشْرٍ حَسَنٍ، وَإِذَا لَقُوا لَقُونَا بِوُجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا. قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْإِيمَانَ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَتِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

و في رواية: قَالَ: وَاللَّهِ، لَا يَدْخُلُ قَلْبُ امْرِئٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَ لِقَرَابَتِي.

“Hazrat Abbas Bin Abdul Muttalib RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Main Ne Bargahe Risalat SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Men Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Quraysh Jab Aapas Men Milte Hai To Hasin Muskuraate Chehro’n Se Milte Hain Aur Jab Ham Se Milte Hai To Aise Chehro’n Se Milte Hain Jinhe’n Ham Nahin Jaante (Ya’ni Jazbaat Se Aari Chehro’n Ke Saath) Hazrat Abbas Farmate Hain: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Yeh Sun Kar Shadid Jalaal Men Aa Ga’e Aur Farmaya: Us Zaat Kee Qasam! Jis Ke Qabza’e Qudrat Men Meri Jaan

AL-HADITH RAQM IO: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/207, RAQM-I772, I777, I7656, I7657, I7658,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/376, RAQM-5433, 2960,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/5I, RAQM-8I76,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 06/I3I, RAQM-2I75,

BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN, 02/I88, RAQM-I50I,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 04/36I, RAQM-7037.



Hai Kisi Bhi Shakhs Ke Dil Men Us Waqt Tak Iman Daakhil Nahin Ho Sakta Jab Tak Allah Ta'ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Meri Qaraabat Kee Khaatir Tum Se Mahabbat Na Kare.”

Ise Imam Ahmad, Nasa'i, Hakim Aur Bazaar Ne Riwayat Kiya Hai.

Ek Riwayat Men Hain Ki Farmaya: Khuda Kee Qasam Kisi Shakhs Ke Dil Men Us Waqt Tak Imaan Dakhil Na Hoga Jab Tak Ki Woh Allah Ta'ala Aur Meri Qaraabat Kee Waj'h Se Tum Se Mahabbat Na Kare.”

11/11. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ عَلَي هَذَا الْمَنْبَرِ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ: إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلِي وَاللَّهِ، إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَأَنِّي أَيُّهَا النَّاسُ، فَرَطُ لَكُمْ عَلَي الْحَوْضِ فَإِذَا جِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَقَالَ: يَتَحَقَّقُ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتَهُ وَ لَكِنَّكُمْ أَحَدْتُمْ بَعْدِي وَ أَرْتَدَدْتُمْ الْقَهْقَرِيَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْحَاكِمُ.

---

AL-HADITH RAQM II: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
03/18, RAQM-III54, HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA S  
AHIHAYN, 04/84, RAQM-6958,  
ABOO YA'LA FI AL-MUSNAD, 02/433, RAQM-1238,  
HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID,  
10/364.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Mimbar Par Farmate Huwe Suna: Un Logo’n Ko Kya Ho Gaya Hai Jo Yeh Kehte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Nasabi Ta’alluq Qiyamat Ke Roz Un Kee Qaum Ko Koi Fa’ida Nahin Dega, Kyoo’n Nahin! Allah Kee Qasam Be-Shak Mera Nasabi Ta’alluq Dunya Wa Aakhirat Men Aapas Men Baaham Mila Huwa Hai Aur Ae Logo! Be-Shak (Qiyamat Ke Roz) Main Tum Se Pehle Hauj Par Maujood Howunga Pas Jab Tum Aa Ga’e To Ek Aadami Kahega Ya RasoolAllah ﷺ! Main Fula’n Bin Fula’n Hoo’n, Pas Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Us Ka Fula’n Bin Fula’n Kehna Paayae Saboot Ko Pahonchega Aur Raha Nasab To Tahqiq Us Kee Pehchaan Main Ne Tumhe’n Kara Dee Hai Lekin Tum Mere Ba’d Tum Ihdaas Karoge Aur Ulte Pao’n Phir Jaaoge.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Aur Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

12/12. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ، خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مِنْ بَعْدِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى.

AL-HADITH RAQM 12: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/352, RAQM-5359,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 10/330, RAQM-5924,

IBN ABI FI AASIM AS-SUNNAH, 02/616, RAQM-1414,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 02/170, RAQM-2851,

KHATIB FI TARIKH BAGHDAD, 07/276, RAQM-3765,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAM’ AS-SAGHIR, 03/497,

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tum Men Se Behtarīn Woh Hai Jo Mere Ba’d Meri Ahal Ke Liye Behtarīn Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Imam Aboo Ya’la Ne Bayan Kiya Hai.

13/13. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَعِزَّتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِزَّتِهِ. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat Abd-ur-Rahman Bin Abi Layla RadiyAllahu ‘Anhu Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Koi Banda Us Waqt Tak Mōmin Nahin Ho Sakta Jab Tak Ki Main Us Ke Najdeek Us Kee Jaan Se Bhi Mahboob Tar Na Ho Jaaoo’n Aur Mere Ahle Bait Use Us Ke Ahle Khaanah Se Mahboob Tar Na Ho Jaa’e’n Aur Meri

---

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/174.

AL-HADITH RAQM 13: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-  
KABIR, 07/75, RAQAM-6416,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 06/59, RAQAM-5790,

BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN, 02/189, RAQAM-1505,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 05/154, RAQAM-7795,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
01/88.

Aulaad Use Apni Aulaad Se Badh Kar Mahboob Na Ho Jaa'e'n Aur Meri Zaat Use Apni Zaat Se Mahboob Tar Na Ho Jaa'en."

Is Imam Tabarani Aur Imam Bayhaqi Ne Riwayat Kiya Hai.

14/14. عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الزُّمُومَا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ يُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا.  
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Hasan Bin Ali RadiyAllahu 'Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ham Ahle Bait Kee Mahabbat Ko Laazim Pakdo, Pas Be-Shak Woh Shakhs Jo Is Haal Men Allah Se Mila Ki Woh Hame'n Mahabbat Karta Tha To Woh Hamaari Shafa'at Ke Sadqe Jannat Men Daakhil Hoga Aur Us Zaat Kee Qasam Jis Ke Qabza'e Quadrat Men Meri Jaan Hain Kisi Shakhs Ko Us Ka Amal Fa'ida Nahin Dega Magar Hamare Haq Kee Ma'refat Ke Sabab."

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

15/15. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَادِمٌ تَخْدُمُهُمْ يُقَالُ لَهَا: بَرِيرَةٌ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، غَطِّي

AL-HADITH RAQM I4: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 02/360, RAQM-2230,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/172.

AL-HADITH RAQM I5: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 05/203, RAQM-5082,

شُعَيْفَاتِكَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَنْ يُغْنِي عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ: فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ: فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ مُحْمَرَةً وَجَنَّتَاهُ، وَكُنَّا مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ وَ حُمْرَةِ وَجَنَّتِيهِ. فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنَا بِمَا شِئْتَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ أَمَرْتَنَا بِأُمَّهَاتِنَا وَأَبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا، لَأَمْضَيْنَا قَوْلَكَ فِيهِمْ، فَصَعِدَ ﷺ الْمَنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقُلْنَا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْنَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَوَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ يُنْفَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعَمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ. لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا، إِنِّي لَا أَشْفَعُ وَأُشْفَعُ، حَتَّى أَنْ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ لِيَشْفَعَ فَيُشْفَعُ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَسْطَاوُلُ طَمَعًا فِي الشَّفَاعَةِ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Aale Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Ek Khaadimah Thi Jo Un Kee Khidmat Baja Laati Use “Barirah” Kaha Jaata Tha Pas Use Ek Aadami Mila Aur Kaha: Ae Barirah, Apni Choti Ko Dhaanp Ke Rakha Karo Be-Shak Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tumhe’n Allah Kee Taraf Se Kuchh

Fa'idah Nahin Pahoncha Sakte. Raawi Bayan Karte Hain Pas Us Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Us Waaq'e'a Kee Khabar Dee, Pas Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Apni Chaadar Ko Ghasit'te Huwe Baahar Tashrif Laa'e Dar-Aa'n-Haale-Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Dono'n Rukhsaar Mubarak Surkh The Aur Ham (Ansar Ka Guroh) Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Gusse Ko Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Chaadar Ke Ghasitne Aur Rukhsaaro'n Ke Surkh Hone Se Pehchaan Lete The Pas Ham Ne Aslahah Uthaaya Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Aa Ga'e Aur Arz Kiya Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Jo Chaahnte Hain Hame'n Hukm De Pas Us Zaat Kee Qasam Jis Ne Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Haq Ke Saath Mab'oos Farmaya Hai! Agar Aap Hame'n Hamaari Maaon, Aaba' Aur Aulaad Ke Baare Men Bhi Koi Hukm Farmayege To Ham Un Men Bhi Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Qaul Ko Naafiz Kar Dene, Pas Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mimbar Par Tasrif Farma Huwe Aur Allah Ta'ala Kee Hamd-o Sana' Bayan Kee Aur Farmaya: Main Kaun Hoo'n? Ham Ne Arz Kiya: Aap Allah Ke Rasool Hain. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ha'n Lekin Main Kaun Hoo'n? Ham Ne Arz Kiya: Aap Muhammad Bin Abd Allah Bin Abd-ul-Muttalib Bin Hashim Bin Abd Munaf Hain. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Hazrat Aadam 'Alayh-is-Salam Kee Aulaad Ka Sardaar Hoo'n Lekin Koi Fakhr Nahin, Main Woh Pehla Shakhs Hoo'n Jis Se Qabr Phategi Lekin Koi Fakhr Nahin Aur Main Woh Pehla Shakhs Hoo'n Jis Ke Sar Se Mitti Jhaadi Jaa'egi Lekin Koi Fakhr Nahin Aur Main Sab Se Pehle Jannat Men Daakhil Hone Waala Hoo'n Lekin Koi Fakhr Nahin Un Logo'n Ko Kya Ho Gaya Hai Jo Yeh Gumaan Karte Hain Ki Mera

Rahm (Nasab-o Ta'alluq Fa'ida Nahin Dega, Aisa Nahin Hai Jaisa Woh Gumaan Karte Hain. Be-Shak Main Shafa'at Karunga Aur Meri Shafa'at Qubool Bhi Hogi Yaha'n Tak Ki Jis Kee Main Shafa'at Karunga Woh Yaqinan Doosro'n Kee Shafa'at Karega Aur Us Kee Bhi Shafa'at Qubool Hogi Yaha'n Tak Ki Iblis Bhi Apni Gardan Ko Baland Karega Shafa'at Men Tam'a Kee Khaatir (Ya Kisi Taur Us Kee Shafa'at Bhi Koi Kar De).”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

16/16. عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: الزُّمُومُ مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ يُوَدُّنَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Husayn Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ham Ahle Bait Kee Mahabbat Ko Laazim Pakdo, Pas Woh Shakhs Jo Is Haal Men Allah Se (Wisaal Ke Baad) Mila Ki Woh Ham Se Mahabbat Karta Ho To Woh Hamaari Shafa'at Ke Wasile Se Jannat Men Daakhil Hoga Aur Us Zaat Kee Qasam Jis Ke Qabza'e Qudrat Men Mujh Mohammad Kee Jaan Hain Kisi Bhi Shakhs Ko Us Ka Amal Hamare Haq Kee Ma'refat Haasil Kiye Baghair Fa'ida Nahin Dega.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 16: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 02/360, RAQM-2230,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/172.

17/17. عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتَ وَشَيْعَتُكَ تَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِوَاءَ مُرَوِّينَ، مُبَيَّضَةً وَجُوهُكُمْ. وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ ظُمَاءً مُتَّبَعِينَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Rafi’ RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Farmaya: Ae Ali! Too Aur Tere (Chaahne Waale) Madad-Gaar (Qiyamat Ke Roz) Mere Paas Hauze Kawthar Par Chehre Kee Shaadaabi Aur Seraab Ho Kar Aa’enge Aur Un Ke Chehre (Noor Kee Waj’h Se) Safed Honge Aur Be-Shak Tere Dushman (Qiyamat Ke Roz) Mere Paas Hauze Kawthar Par Badnuma Chehro’n Ke Saath Aur Sakht Pyaas Kee Haalat Men Aa’enge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

18/18. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا سَمَّيْتُ بِنْتِي فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ.  
رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

AL-HADITH RAQM 17: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/319, RAQM-948,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/131.

AL-HADITH RAQM 18: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/346, RAQM-I385,

KHATIB FI TARIKH BAGHDAD, 12/331,

MUNAWI FAYD-UL-QADIR, 03/432.



“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Main Ne Apni Beti Ka Naam Fatimah Rakha Hai Kyoo’n Ki Allah Ta’ala Ne Ise Aur Is Ke Chaahne Waalo’n Ko Aag Se Chhuda (Aur Bacha) Liya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

19/19. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ يَوْمًا، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ahle Baite Mustafa SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Ek Din Kee Mahabbat Poore Saal Kee Ibaadat Se Behtar Hai Aur Jo Isi Mahabbat Par Faut Huwa To Woh Jannat Men Daakhil Ho Gaya.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

20/20. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا. خَمْسٌ مِنْ أَوْتِيَهُنَّ لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيَّ تَرْكِ عَمَلِ الْأَخْرَةِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَ بَنُونَ أَبْرَارٌ وَ حَسَنٌ مُخَالِطَةَ النَّاسِ وَ مَعِيشَةٌ فِي بَلَدِهِ وَ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

---

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/146, RAQM-2721.

AL-HADITH RAQM 20: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 02/196, RAQM-2974.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Marfu’an Riwayat Hai Ki Paanch-05 Cheeze’n Aisi Hain Ki Agar Kisi Ko Nasib Ho Jaa’e To Woh Aakhirat Ke Amal Ka Taarik Nahin Ho Sakta (Aur Woh Paanch-05 Cheeze’n Yeh Hain): Nek Biwi, Nek Aulaad, Logo’n Ke Saath Husne Mu’asharat Aur Apne Mulk Men Rozgaar Aur Aale Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Mahabbat.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

21/21. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ: أَنَا شَجَرَةٌ، وَ فَاطِمَةُ حَمْلُهَا، وَ عَلِيٌّ لِقَاحُهَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثَمَرُهَا، وَ الْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رَقُّهَا، هُمْ فِي الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Marfu’an Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Darakht Hoo’n Aur Fatimah Is Ke Phal Kee Ibtidaa’i Haalat Hai Aur Ali Is Ke Phool Ko Muntaqeel Karne Waaala Hai Aur Hasan Aur Husayn Is Darakht Ka Phal Hai Aur Ahle Bait Se Mahabbat Karne Waale Is Darakht Ke Awraq Hain Woh Yaqinan Yaqinan Jannat Men (Daakhil Hone Waale) Hain.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

22/22. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ: أَرْبَعَةٌ أَنَا لَهُمْ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَكْرَمُ ذُرِّيَّتِي، وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ، وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَ مَا اضْطَرُّوا إِلَيْهِ، وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلسَانِهِ.  
رَوَاهُ الْمُتَّقِيُّ الْهِنْدِيُّ.

“Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Marfuan Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Chaar<sup>4</sup> Shakhs Aise Hain Qiyamat Ke Roz Jeen Ke Liye Main Shafa’at Karne Waala Howunga (Aur Woh Yeh Hain: ) Meri Aulaad Kee Izzat-o Takrim Karne Waala, Aur Un Kee Haajaat Ko Poora Karne Waala, Aur Un Ke Muamalaat Ke Liye Tag-o Dau Karne Waala Jab Woh Majboor Ho Kar Us Ke Paas Aa’e Aur Dil-o Jaan Se Un Kee Mahabbat Karne Waala.”

Is Hadith Ko Imam Muttaqi Hidni Ne Riwayat Kiya Hai.

### 3. فَضْلٌ فِي مَشْرُوعِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ ﷺ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kī Itteebā' Meñ Āp ﷺ  
Ke Ahle Bait Par Durūd Bhejne Kā Bayān﴾

23/23. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aboo Humayd Saa’idi RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Sahaba’e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’in Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah! Ham Aap Par Kaise Durood Bhejen? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Yoo’n) Kaho: Ae Allah Too Durood Bhej. Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaj Mutahharat Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Dhurriyate Taahirah Par Jaisa Ki Too Ne

AL-HADITH RAQM 23: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1232,

RAQM-3189,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 01/306, RAQM-407,

MALIK FI AL-MUWATTA’, 01/165, RAQM-395,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 01/384, RAQM-1217,

ABOO ‘AWANAH FI AL-MUSNAD, 01/546, RAQM-4039,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/150, RAQM-2685.

Durood Bheja Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Kee Aal Par Aur Barakat Ata Farma Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaaje Mutahharat Ko Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Dhurriyate Tahirah Ko Jaisa Ki Too Ne Barakat Ata Kee Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Ko Be-Shak Too Hamid Majid Hai.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

24/24. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jise Yeh Khushi Haasil Karni Ho Ke Us Ke Naama’e Aamal Ka Poora-Poora Badala Diya Jaa’e Jab Woh Ham Ahle Bait Par Durood Bheje To Use Chaahi’e Ki Yoo’n Kahe: Ae Allah! Too Durood Bhej Hazrat Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaaje Mutahharat Ummahat-ul-Mu’minin Par Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi

---

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 01/258,

RAQM-982,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/151, RAQM-2686,

BAYHAQI FI AS-SHUAB-UL-IMAN, 02/189, RAQM-1504,

MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 05/348.

Wa-Sallam Kee Dhurriyat Aur Ahle Bait Par Jaisa Ki Too Ne Durood Bheja Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Par Be-Shak Too Bohat Taa’rif Kiya Huwa Aur Buzurgi Waala Rabb Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

25/25. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَيَّ مُحَمَّدٍ، مَا رَأَيْتُ أَنَّ صَلَاتِي تَتِمُّ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat Aboo Mas’ood Ansaari RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ne Namaz Padhi Aur Mujh Par Aur Mere Ahle Bait Par Durood Na Padha Us Kee Namaz Qubool Na Hogi. Hazrat Aboo Mas’ood Ansaari RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Agar Main Namaz Padhoo’n Aur Us Men Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Duroode Pak Na Padhoo’n To Main Nahin Samjhata Ki Meri Namaz Kaamil Hogi.”

Ise Imam Daraqutni Aur Bayhaqi Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 25: AKHRAJAHU AL-DARAQUTNI FI AS-SUNAN, 01/355,

RAQM-706,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/530, RAQM-3969,

IBN JAWZI FI AT-TAHQIQ FI AHADITH-UL-KHILAF, 01/402,

RAQM-544,

SHAWKANI FI NAYL-UL-AWTAR MIN ASRAR MUNTAQA AL-

AKHBAR, 02/322.

26/26. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ? قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَهْدِهَا إِلَيَّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ قَالَ ﷺ: قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. وَاللَّهِمَّ، بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd-ur-Rahman Bin Abi Laylah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ka’b Bin Oojrah RadiyAllahu ‘Anhu Mujhe Mile Aur Kaha Kya Main Tumhe’n Woh (Hadith) Hadyah Na Karoo’n Jo Main Ne Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Suni Hai? Main Ne Kaha Kyoo’n Nahin: Raawi Bayan Karte Hain Main Ne Kaha Ki Wob Mujhe Hadyah Karo To Unhone Kaha: Ham Ne Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Sawaal Kiya: So Ham Ne Arz Kiya Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Kee Ahle Bait Par Durood Kaise Bheja Jaa’en? To Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Yoo’n) Kaho: Ae Allah Too (Ba-Soorate Rahmat) Durood

AL-HADITH RAQM 26: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/160, RAQM-4710,

وأشارالحاكم إلى أن البخارى خرج به بلفجه، ولكن علة نكره كما نكره هنا، لإفادة أن الآل جمعاًهم. ولابن المنذر جزء في طريق حديث ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة،

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/29, RAQM-2368.

Bhej. Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Aal Par Jaisa Ki Too Ne Durood Bheja Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Aur Aap ‘Alayh-is-Salam Kee Aal Par, Be-Shak Too Hamid Majid Hai Aur Ae Allah Too Barakat Ata Kar Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Aal Ko Jaisa Kee Too Ne Barakat Ata Kee Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Aur Aap ‘Alayh-is-Salam Kee Aal Ko Be-Shak Too Hamid Majid Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai

27/27. عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا أُرِيدُ عَلِيًّا فَقِيلَ لِي هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَمْتُ إِلَيْهِمْ فَأَجِدُهُمْ فِي حَظِيرَةٍ مِّنْ قَصَبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنَ وَ حُسَيْنَ ﷺ قَدْ جَمَعَهُمْ تَحْتَ ثَوْبٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ جَعَلْتَ صَلَوَاتِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Wathilah Bin Asqa’ RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Talaash Men Baahar Nikla To Mujhe Kisi Ne Kaha Ki Woh Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Hain Pas Main Ne (Waha’n) Un (Us Ke Paas Jaane) Ka Iraada Kiya (Aur Jab Main Waha’n Pahoncha) To Main Ne Unhe’n Huzoor Nabiiyye

---

AL-HADITH RAQM 27: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/95, RAQM-230,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/I67.



Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Chaadar Ke Andar Paaya Aur Hazrat Ali, Hazrat Fatimah Aur Hasan Aur Husayn RadiyAllahu ‘Anhum Ajma’in In Sab Ko Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Kapde Ke Neeche Jam’a Kar Rakha Tha Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Allah! Be-Shak Too Ne Apne Durood Aur Apni Ridwaan Ko Mujh Par Aur In Par Khaas Kar Diya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

4. فَضْلٌ فِي بَشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَجَزَائِهِ

لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ ﷺ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kā Apne Ahle Bait Ko  
Jannat Kī Bashārat Dene Aur Un Se Nekī Karne  
Wāloñ Ko Jazā' Dene Kā Bayān﴾

28/28. عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍِّّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَذُرَارِينَا خَلْفَ ظَهْرِنَا،  
وَ أَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذُرَارِينَا، وَ شَيْعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَ عَنْ شِمَائِلِنَا. رَوَاهُ  
الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Rafi’ RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Farmaya: Be-Shak Pehle Chaar<sup>4</sup> Ashkhaas Jo Jannat Men Daakhil Honge Woh Main, Tum, Hasan Aur Husayn Honge Aur Hamaari Aulaad Hamare Pichhe Hogi (Ya’ni Hamare Ba’d Woh Daakhil Hogi) Aur Hamari Biwiya’n Hamaari Aulaad Ke Pichhe Hongi (Ya’ni Un Ke Ba’d Jannat Men Daakhil Hongi) Aur Hamaare Chaahne

---

AL-HADITH RAQM 28: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/319, RAQM-950,  
03/41, RAQM-2624,  
HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/131.

Waale (Hamaare Madad-Gaar) Hamaari Daa'in Jaanib Aur Baa'in Jaanib Honge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

29/29. عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَنَعَ إِلَيَّ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَدًّا فَلَمْ يَكْفِئْهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا فَعَلَيَّْ مُكَافَأَتُهُ غَدًا إِذَا لَقَيْتَنِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abaan Bin Uthman RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Ne Hazrat Uthaman Bin Affan RadiyAllahu ‘Anhu Ko Farmate Huwe Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Shakhs Ne Aulaade Abd-ul-Muttalib Men Se Kisi Ke Saath Koi Bhala'i Kee Aur Woh Is Ka Badla Is Dunya Men Na Chuka Saka To Us Ka Badla Chukaana Kal (Qiyamat Ke Roz) Mere Zimme Hai Jab Woh Mulaqaat Karega.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

30/30. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَلِدْرِيَّتِكَ وَ لَوْلِدِكَ وَ لِأَهْلِكَ، وَ لِشَيْعَتِكَ وَ لِمْجِبِّي شَيْعَتِكَ. فَأَبْشِرْ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JUL-AWSAT, 02/I60, RAQM-I446,

MAQDISI FI AL-AHADITH-UL-MUKHTARAH, 01/439, RAQM-315,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/I73.

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 05/329, RAQM-8337.

“Hazrat Ali Bin Husayn RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ali! Be-Shak Allah Ta’ala Ne Tujhe Aur Teri Aulaad Ko Aur Tere Ghar Waalo’n Ko Aur Tere Madad-Gaaron Ko Aur Tere Madad-Gaaron Ke Chaahne Waalo’n Ko Bakhsh Diya Hai Pas Tujhe Yeh Khush-Khabari Mubarak Ho.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

## 5. فَضْلٌ فِي أَنَّهُمْ أَمَانٌ وَنَجَاةٌ لِأُمَّتِهِ ﷺ

### ﴿Ahle Baite Aḥār Kā Āp ﷺ Kī Ummat Ke Liye Bā'ise Amān Aur Najāt Hone Kā Bayān﴾

31/31. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Farmate Hain Ki Main Ne Suna Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa- Ala Aalihi Wa-Sallam Farma Rahe The: Ae Logo! Main Tumhare Darmiyan Aisi Cheeze’n Chhod Raha Hoo’n Ki Agar Tum Unhe’n Pakde Rakhoge To Harghiz Gumraah Na Howoge. (Un Men Se Ek) Allah Ta’ala Kee Kitab Aur (Doosri Cheez) Mere Ghar Waale Hain.”

Ise Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Aur Hasan Qaraar Diya Hai.

32/32. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَيَّ نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

---

AL-HADITH RAQM 31: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/662,  
RAQM-3786,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/89, RAQM-4757,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/66, RAQM-2680,

IBN KATHIR FI TAFSIR-UL-QUR’AN AL-AZIM, 04/II4.

AL-HADITH RAQM 32: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/662,  
RAQM-3786,

أَنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِي  
أَهْلَ بَيْتِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Daurane Hajj Arafah Ke Din Dekha Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Untani Quswa’ Par Sawaar Khutba Farma Rahe Hain. Pas Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Ae Logo’n: Main Ne Tum Men Woh Cheez Chhodi Hain Ki Agar Tum Use Mazbooti Se Thaam Lo To Kabhi Gumraah Nahin Howoge Aur Woh Cheez Kitabullah Aur Meri Itrat Ahle Bait Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

33/33. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ  
الْأَرْضِ مِنَ الْعَرَقِ وَ أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْإِخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفْتَهَا  
فَقِيْلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.  
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/66, RAQM-2680,

HAKIM AT-TIRMIDHI FI NAWADIR-UL-USOOL FI MA’RIFATI  
AHADITH-IR-RASOOL 258/01, ﷺ

QAZWINI FI AT-TADWIN FI AKHBAR QAZWIN, 02/266.

AL-HADITH RAQM 33: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA  
SAHIHAYN, 03/162, RAQM-4715.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Seetaare Ahl-Zameen Ko Gark Hone Se Bachaane Waale Hain Aur Meri Ahle Bait Meri Ummat Ko Ikhtilaaf Se Bachaane Waale Hain Aur Jab Koi Qabilah Un Kee Mukhaalafat Karta Hain To Us Men Ikhtilaaf Pad Jaata Hain Yaha’n Tak Ki Woh Shaytaan Kee Jama’at Men Se Ho Jaata Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

34/34. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي  
مَنْ أَقْرَبَ مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَوَلِيَّيَ بِالْبَلَاغِ، أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Rabb Ne Mujh Se Mere Ahle Bait Ke Baare Men Waa’da Kiya Hai Ki Un Men Se Jo Bhi Meri Tauheed Ka Iqraar Karega Use Yeh Baat Pahoncha Dee Jaa’e Ki Allah Ta’ala Use Azaab Nahin Dega.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Is Hadith Kee Sanad Sahih Hai.

35/35. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Ahle Bait Kee Misaal Hazrat Nooh ‘Alayhis-Salam Kee Kashti Kee See Hai Jo Is Men Sawaar Ho Gaya Woh Najaat Paa Gaya Aur Jo Is Se Pichhe Rah Gaya Woh Garq Ho Gaya.”

Aur Ek Riwayat Men Hazrat Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Farmaya: Jo Is Men Sawaar Huwa Woh Salaamati Paa Gaya Aur Jis Ne Use Chhod Diya Woh Garq Ho Gaya.”

Ise Tabarani, Bazzar Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 35: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 12/34, RAQM-2388, 2638, 2638, 2636,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 04/10, RAQM-3478,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/355, RAQM-5536,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 06/58, RAQM-5870,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 01/240, RAQM-391,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 02/84, RAQM-825,  
 HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/163, RAQM-4720,  
 BAZZAR FI AL-MUSNAD, 09/343, RAQM-3900,  
 DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/238, RAQM-916,  
 HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
 09/168.



36/36. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ: مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَالِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Dharr Ghifari RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Ahle Bait Kee Misaal Hazrat Nooh ‘Alayhis-Salam Kee Kashti Kee See Hai Jo Is Men Sawaar Ho Gaya Najaat Paa Gaya Aur Jo Is Se Pichhe Reh Gaya Woh Garq Ho Gaya Aur Aakhiri Zamaane Men Jo Hame’n (Ahle Bait Ko) Qatl Karega Goya Woh Dajjal Ke Saath Mil Kar Qitaal Karne Waala Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

37/37. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ حُرْمَاتٍ ثَلَاثًا مَنِ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَنْ ضَيَعَهُنَّ لَمْ يَحْفَظْ

---

AL-HADITH RAQM 36: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/45, RAQM-2637,

QUDA’Y FI MUSNAD-USH-SHIHAB, 02/273, RAQM-I343,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/68.

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 01/72, RAQM-203,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/126, RAQM-288I,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/88,

DHAHABI FI MIZAN-UL-I’TIDAL FI NAQD-IR-RIJAL, 05/294.

اللَّهُ لَهُ شَيْئًا قَعِيلٌ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ، وَحُرْمَتِي،  
وَ حُرْمَةُ رَحِمِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Allah Ta’ala Kee Teen<sup>3</sup> Hurumaat Hain Jo In Kee Hifaazat Karta Hai Allah Ta’ala Us Ke Liye Us Ke Deen-o-Dunya Ke Mu’aamalaat Kee Hifaazat Farmata Hain Aur Jo In Teen<sup>3</sup> Ko Jaa’e’n Kar Deta Hain Allah Ta’ala Us Kee Kisi Cheez Kee Hifaazat Nahin Farmata So Arz Kiya Gaya: Ya RasoolAllah ﷺ! Woh Kaun See Teen<sup>3</sup> Hurumaat Hain? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Islam Kee Hurmat, Meri Hurmat Aur Mere Nasab Kee Hurmat.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

38/38. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.  
فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.  
فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Seetaare Ahle Aasman Ke Liye Amaan Hain Pas Jab Seetaare Chale Ga’e To Ahle Aasman Bhi Chale Ga’e Aur Mere Ahle Bait Zameen Waalo’n Ke Liye Amaan Hain Pas Jab Mere Ahle Bait Chale Ga’e Ahle Zameen Bhi Chale Ga’e.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

## 6. فَضْلٌ فِي تَحْذِيرِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بُغْضِهِمْ وَ

### عَدَاوَتِهِمْ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kā Apne Ahle Bait Se  
Bugħz-o ‘Adāwat Rakhne Se Darāne Kā Bayān﴾

39/39. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ، لَعْنَهُمُ اللَّهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ كَانَ: الرَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُسَلِّطُ بِالْجَبْرُوتِ لِيُعْزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَدَلَّ اللَّهُ، وَيُذَلُّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَجِلُّ لِحُرْمِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَجِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Chhe-06 Bandon Par Main La’nat Karta Hoo’n Aur Allah Bhi Un Par La’nat Karta Hai Aur Har Nabi Mustajab-ud-Da’wat Hai Woh Bhi Un Par La’nat Karta Hain: Jo Kitabullah Men Ziyaadati Karne Waala Ho Aur Allah Ta’ala Kee Qadr Ko Jhutlaane Waala Ho Aur Zulm-o Jabar Ke Saath Tasallut (Hukumat) Haasil Karne Waala Ho

AL-HADITH RAQM 39: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 04/457,

RAQM-2154,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 13/60, RAQM-5749,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 02/572, RAQM-394I,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 17/43, RAQM-89,

BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN, 03/443, RAQM-4010.

Taa Ki Us Ke Zari'e Use Izzat De Sake Jise Allah Ne Zalil Kiya Hai Aur Use Zalil Kar Sake Jise Allah Ne Izzat Dee Hai Aur Allah Ta'ala Kee Haraam Karda Chizo'n Ko Halaal Karne Waala Aur Meri Itrat Ya'ni Ahle Bait Kee Hurmat Ko Halaal Karne Waala Aur Meri Sunnat Ka Taareek (Tark Karne Waala).”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Ibn Hibban Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

40/ 40. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ:  
لَا يُنْعِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Us Zaat Kee Qasam Jis Ke Qabza'e Qudrat Men Meri Jaan Hain! Ham Ahle Bait Se Koi Aadami Nafrat Nahin Karta Magar Yeh Ki Allah Ta'ala Use Dozakh Men Daal Kar Deta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Hibban Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/435,

RAQM-6978,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/162, RAQM-4717,

DHAHABI FI SIYAR A'LAM-IN-NUBALA', 02/123,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID,

01/555, RAQM-2246.

41/41. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ وَأَنْ يَهْدِيَ صَالَكُمْ، وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، وَ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ جُودَاءَ نَجْدَاءِ رُحَمَاءِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَصَلَّى وَ صَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَخَلَ النَّارَ.  
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Banu Abd-ul-Muttalib Be-Shak Main Ne Tumhare Liye Allah Ta’ala Se Das-10 Cheeze’n Maangi Hain Pehli Yeh Ki Woh Tumhaare Qiyaam Karne Waale Ko Saabit Qadam Rakhe Aur Doosri Yeh Ki Woh Tumhaare Gumraah Ko Hidaayat De Aur Teesri Yeh Ki Woh Tumhaare Jaahil Ko Ilm Ata’ Kare Aur Main Ne Tumhare Liye Allah Ta’ala Se Yeh Bhi Maanga Hai Ki Woh Tumhe’n Sakhaawat Karne Waala Aur Doosro’n Kee Madad Karne Waala Aur Doosro’n Par Rahm Karne Waala Banaa’e’n Pas Agar Koi Rukn Aur Maqaam Ke Darmiyan Dono’n Paaun Qataar Men Rakh Kar Khada Ho Jaa’e’n Aur Namaaz Padhe Aur Roza Rakhe Aur Phir (Wisaal

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/161, RAQM-4712,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/176, RAQM-II412,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/171.

Kee Shaki Men) Allah Se Mile Dar-Aa'n-Haale-Ki Woh Ahle Bait Se Bughz Rakhne Waala Ho To Woh Dozakh Men Daakhil Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai Niz Imam Hakim Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

42/42. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بُغِضُ بَنِي هَاشِمٍ وَالْأَنْصَارِ كُفْرٌ، وَبُغِضُ الْعَرَبِ نِفَاقٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Banu Hashim Aur Ansar Se Bughz Rakhna Kufur Hai Aur Ahle Arab Se Bughz Rakhna Munafiqat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

43/43. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ

---

AL-HADITH RAQM 42: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/145, RAQM-II312,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/I72,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI’ AS-SAGHIR, 03/05.

AL-HADITH RAQM 43: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 04/212, RAQM-4002,

DHAHABI FI MIZAN-UL-I’TIDAL FI NAQD-IR-RIJAL, 03/171,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/I72.

مُسْلِمًا. أَيُّهَا النَّاسُ، احْتَجَرَ بِذَلِكَ مِنْ سَفَكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. مِثْلَ لِي أُمَّتِي فِي الْبَطْنِ فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّايَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِّيَّ وَشِيعَتِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Ek Daf’a Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ham Se Mukhaatib Huwe Pas Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Ae Logo! Jo Hamare Ahle Bait Se Bughz Rakhta Hai Allah Ta’ala Use Roze Qiyamat Yahudiyo’n Ke Saath Jam’a Karega To Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Agarcheh Woh Namaz, Rozah Ka Paaband Hee Kyoo’n Na Ho Aur Apne Aap Ko Musalman Gumaan Hee Kyu’n Na Karta Ho? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Ha’n) Agarcheh Woh Rozah Aur Namaz Ka Paaband Hee Kyoo’n Na Ho Aur Khud Ko Musalman Tasawwur Karta Ho, Ae Logo! Yeh Labaadah Odh Kar Us Ne Apne Khoon Ko Mubaah Hone Se Bachaaya Aur Yeh Ki Woh Apne Haath Se Jizyah De’n Dar-Aa’n-Haale-Ki Woh Ghatya Aur Kamine Ho’n Pas Meri Ummat Mujhe Meri Maa Ke Pet Men Dikhaa’i Ga’i Pas Mere Paas Se Jhando’n Waale Guzre To Main Ne Hazrat Ali Aur Shi’aane Ali Ke Liye Maghfirat Talab Kee.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

44/44. عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ: يَا مُعَاوِيَةَ بْنَ خَدِيجٍ، إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُبْغِضُنَا أَحَدٌ، وَلَا



يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا ذِيْدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَيَاطِ مِّنْ نَّارٍ. رَوَاهُ  
الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Hasan Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Unhone Mu’awiyah Bin Khudayj Se Kaha: Ae Mu’awiyah Bin Khudayj! Hamare (Ahle Bait Ke) Ke Bughz Se Bacho Kyoo’n Ki Be-Shak Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ki Ham (Ahle Bait) Se Koi Bughz Nahin Rakhta Aur Koi Hasad Nahin Karta Magar Yeh Ki Qiyamat Ke Din Use Aag Ke Chaabuko’n Se Hauze Kawthar Se Dhutkaar Diya Jaa’ega.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

45/45. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِزَّتِي وَ  
الْأَنْصَارِ وَالْعَرَبِ فَهُوَ لِأَحَدِي ثَلَاثٍ: إِمَّا مُنَافِقٌ، وَإِمَّا لَزِيْنِيَّةٌ، وَإِمَّا امْرُؤٌ  
حَمَلَتْ بِهِ أُمَّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jo Shakhs Mere Ahle Bait Aur Ansar Aur Arab Ka Haq Nahin Pahchaanta To Us Men Teen<sup>3</sup> Chizo’n Men Se Ek Paa’i Jaati Hai: Ya To Woh Munafiq Hai Ya Woh Haraami Hai

---

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/172.

AL-HADITH RAQM 45: AKHRAJAHU AL-BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN,  
02/232, RAQM-I614,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 03/626, RAQM-5955,

DHAHABI FI MIZAN-UL-I’TIDAL FI NAQAD-UR-RIJAL, 03/I48.

Ya Woh Aisa Aadami Hai Jis Kee Maa Baghair Thahr Ke Us Se Haamilah Hu'i Ho.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Apni Musnad Men Riwayat Kiya Hai.

46/46. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: اللَّهُمَّ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَنِي وَأَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِي، كَثْرَةَ الْمَالِ وَالْعِيَالِ. كَفَاهُمْ بِذَلِكَ عَيًّا أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُمْ فَيَطُولَ حِسَابُهُمْ، وَأَنْ يَكْثُرَ الْوِجْدَانِيَّاتُ فَيَكْثُرَ شَيَاطِينُهُمْ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Allah Jo Mujh Se Aur Meri Ahle Bait Se Bughz Rakhta Hai Use Kasrate Maal Aur Kasrate Aulad Se Nawaaz Yeh Un Kee Gumraahi Ke Liye Kaafi Hai Ki Un Ka Maal Kathir Ho Jaa'e'n Pas (Us Kasrate Maal Kee Waj'h Se) Un Ka Hisaab Taweel Ho Jaa'e'n Aur Yeh Ki Un Kee Wajdaanyaat (Jazbaati Cheezen) Kathir Ho Jaa'e'n Taa Ki Un Ke Shayaatin Kasrat Se Ho Jaa'en.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

47/47. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ: بُغْضُ عَلِيٍّ، وَنَصَبُ أَهْلِ بَيْتِي، وَمَنْ قَالَ: الْإِيمَانَ كَلَامٌ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Teen<sup>3</sup> Cheeze’n Aisi Hain Woh Jis Men Paa’i Jaa’engi Na Woh Mujh Se Hai Aur Na Main Us Se Hoo’n (Aur Woh Teen Cheeze’n Yeh Hain): Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Bughz Rakhna, Meri Ahle Bait Se Dushmani Rakhna Aur Yeh Kehna Ki Imaan (Faqt) Kalaam Ka Naam Hai.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

## 7. فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقَرَابَةِ

﴿Ḥuḏūr Nabīye Akram ﷺ Ke Ahle Bait Aur  
Qarābat-Dārōn Ke Jāme‘ Manāqib Kā Bayān﴾

48/48. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا حَظِيْبًا. بِمَاءٍ يُدْعَى حُخْمًا. بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فَحَثَّ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي. أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Ek Din Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-

AL-HADITH RAQM 48: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 03/1873, RAQM-2408,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/366, RAQM-19265,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 01/145, RAQM-123,

IBN KHUZAYMAH FI AS-SAHIH, 04/62, RAQM-2357,

LALKA’I FI I’TIQAD AHL-US-SUNNAH, 01/79, RAQM-88,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/148, RAQM-2679,

IBN KATHIR FI TAFSIR-UL-QUR’AN AL-AZIM, 03/487.

Sallam Hamē'n Khutba Dene Ke Liye Makkah Aur Madinah Munawwara Ke Darmiyan Us Taalaab Par Khade Huwe Jise Khum Kehte Hain. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Allah Ta'ala Ki Hamd-o Sana' Aur Waa'z-o Naseehat Ke Ba'd Farmaya: Ae Logo! Main To Bas Ek Aadami Hoo'n, Anqareeb Mere Rabb Ka Paigaam Laane Waala Firishta (Ya'ani Firishta'e Azal) Mere Paas Aa'ega Aur Main Use Labbaik Kahunga. Main Tum Men Do<sup>2</sup> Azeem Cheeze'n Chhode Ja Raha Hoo'n Un Men Se Pehli Allah Ta'ala Kee Kitab Hai Jis Men Hidaayat Aur Noor Hai. Allah Ta'ala Kee Kitab Par Amal Karo Aur Use Mazbooti Se Thaam Lo, Phir Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kitabullah (Kee Ta'limaat Par Amal Karne Par) Ubhaara Aur Us Kee Targeeb Dee Phir Farmaya: Aur (Doosre) Mere Ahle Bait Hain. Main Tumhe'n Apne Ahle Bait Ke Mut'alliq Allah Kee Yaad Dilaata Hoo'n. Main Tumhe'n Apne Ahle Bait Ke Mut'alliq Allah Kee Yaad Dilaata Hoo'n. Main Tumhe'n Apne Ahle Bait Ke Mut'alliq Allah Kee Yaad Dilaata Hoo'n."

Ise Imam Muslim Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

49/49. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرْحَلٌ،  
مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَبَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

AL-HADITH RAQM 49: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1883, 2424,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/159, RAQM-4707,  
4709,

IMAM HAKIM NE IS HADITH KO SAHIH QARAAR DIYA HAI.

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/149, RAQM-2680,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/370, RAQM-32102,

TABARANI FI JAMI'UL-BAYAN, 22/06,

IBN KATHIR FI TAFSIR-UL-QUR'AN AL-AZIM, 03/486,

فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ﷺ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ ﷺ فَأَدْخَلَهُ،  
ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا) (الأحزاب، 33: 33)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sub’h Ke Waqt Ek Ooni Munaqqash Chaadar Odhe Huwe Baahar Tashreef Laa’e To Aap Ke Paas Hazrat Hasan Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe Us Chaadar Men Daakhil Kar Liya, Phir Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhu Aa’e Aur Woh Bhi Un Ke Humraah Chaadar Men Daakhil Ho Ga’e, Phir Sayyidah Fatima RadiyAllahu ‘Anha Aa’e’n Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Us Chaadar Men Daakhil Kar Liya, Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aa’e’n To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Chaadar Men Le Liya. Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Yeh Aayate Mubaraka Padhi: “Aye Ahle Bait! Allah Ta’ala To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Dur Kar De Aur Tum Ko (Gunaaho’n Se) Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Ise Imam Muslim Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

50/50. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ)، (آل عمران، 3: 61)، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Aayate Mubahalalah Naazil Hu’i: ‘Aap Farma De Aao Ham Bulaa’e’n Apne Bete Aur Tumhare Bete.” To Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn عَلَيْهِمُ السَّلَام Ko Bulaaya, Phir Farmaya: Ya Allah! Yeh Mere Ahle Bait Hain.”

Ise Imam Muslim Aur Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 50: AKHRAJAHU [MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1871, RAQM-2404,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/225, RAQM-2999,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/638, RAQM-3764,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/185, RAQM-1608,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/107, RAQM-8399,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/163, RAQM-4719,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/63, RAQM-13169, 13170.

51/51. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَأَلْتُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn RadiyAllahu ‘Anhum Ajma’in Se Farmaya: Tum Jis Se Ladoge Main Us Ke Saath Haalate Jang Men Hoo’n Aur Jis Se Tum Sulh Karne Waale Ho Main Bhi Us Se Sulh Karne Waala Hoo’n.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

52/52. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابٌ

---

AL-HADITH RAQM 51: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/699, RAQM-3870,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN 01/52, RAQM-145,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/161, RAQM-4714,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/182, RAQM-5015,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/40, RAQM-2620,

SAYDAWI FI MU’JAM AL-SHUYOOKH, 01/133, RAQM-85.

AL-HADITH RAQM 52: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/663, RAQM-3788, 3786,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/45, RAQM-8148, 8464,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/14, 26,59, RAQM-III19,

II227, II578,



اللَّهُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي : أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا  
حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
وَحَسَنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi He Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Tum Men Aisi Do<sup>2</sup> Cheeze’n Chhode Ja Raha Hoo’n Ki Agar Mere Ba’d Tum Ne Unhe’n Mazbooti Se Thaame Rakha To Hargiz Gumraah Na Howoge. Un Men Se Ek Doosri Se Badi Hai. Allah Ta’ala Kee Kitaab Aasmaan Se Zameen Tak Latki Hu’i Rassi Hai Aur Meri Itrat Ya’ani Ahle Bait Aur Yeh Dono’n Hargiz Juda Na Hongi Yaha’n Tak Ki Dono’n Mere Paas Hauze Kawthar Par Aa’engi Pas Dekho Ki Tum Mere Baa’d Un Se Kya Sulook Karte Ho?”

Ise Imam Tirmidhi, Nasa’i Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Aur Imam Tirmidhi Ne Ise Hasan Qaraar Diya Hai.

---

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHHAYN, 03/II8, RAQM-4576,  
TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/374, RAQM-3439,  
TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 01/226, RAQM-323,  
TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/65, RAQM-2678,  
IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/I33, RAQM-30081,  
ABOO YA’LA AL-MUSNAD, 02/303, RAQM-10267, II40,  
IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH, 02/644, RAQM-1553,  
DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/66, RAQM-194,  
HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/I63.

53/53. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ  
 الْآيَةُ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الأحزاب، 33: 33)، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا  
 فَاطِمَةَ، وَ حَسَنًا، وَ حُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَ عَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ  
 بِكِسَاءٍ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَ لَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَ  
 طَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَ أَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ  
 مَكَانِيكَ وَ أَنْتِ عَلَيَّ خَيْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Parwardah Hazrat Umar Bin Abi Salamah RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Jab Umm-ul-Mu’minin Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Ke Ghar Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Yeh Aayat “Aye Ahle Bait! Allah To Yehi Chahta He Ki Tum Se (Har Tarh) Ki Aaludagi Dur Kar De Aur Tumhe’n Khoob Paak-o Saaf Kar De.” Naazil Hu’i To Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Sallam Ne Sayyidah Fatimah Aur Hasanayn Karimayn ﷺ Ko Bulaaya Aur Unhe’n Apni Ek Kamli Men Dhaanp Liya. Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Peechhe The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Apni

AL-HADITH RAQM 53: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/351,  
 RAQM-3205,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/699, RAQM-3871,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 04/134, RAQM-3799.

Kamli Men Dhaanp Liya, Phir Farmaya: "Aye Allah! Yeh Mere Ahle Bait Hain, Pas In Se Har Kism Kee Aaludagi Dur Farma Aur Inhe'n Khoob Paak-o Saaf Kar De. Sayyidah Umme Salamah RadiyAllahu 'Anha Ne Arz Kee: Ae Allah Ke Nabi ﷺ! Main (Bhi) In Ke Saath Hoo'n, Farmaya: Tum Apni Jagah Raho Aur Tum To Behtar Maqam Par Fa'iz Ho."

Ise Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

54/54. عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. قَالَ أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ فَرَّ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَيَّ مَجْنُونٍ لَبَرَأْتُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الطَّبْرَانِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ.

"Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu 'Alayhi

---

AL-HADITH RAQM 54: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, AL-MUQADDIMAH, 01/25, RAQM-65,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 06/226, RAQM-2654,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 08/262, RAQM-8580,

BAYHAQI FI SHU'B-UL-IMAN, 01/47, RAQM-16,

MARWAZI FI TA'ZIM QADR-US-SALAH, 02/742,

SUYOOTI FI SHARH SUNAN IBN MAJAH, 01/08, RAQM-65,

IBN QAYYIM FI HASIYAH ALA SUNAN ABI DAWOOD, 02/294.

Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Iman Naam Hai Dil Se Pehchaan'ne, Zubaan Se Iqraar Karne Aur Arkaan Par Amal Karne Ka. (Raawi) Aboo Salt Harwi Farmate Hain: Agar Is Hadith Kee Sanad: ﴿عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ﴾ Paagal Par Padh Kar Dam Kar Dee Jaa'e'n To Woh Thik Ho Jaa'e."

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah, Tabarani Aur Bayhaqi Ne Riwayat Kiya Hai.

55/55. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَي النَّارِ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَزَّازُ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

"Hazrat Abd Allah Bin Mas'ood RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Fatimah Ne Apni Ismat Kee Hifaazat Kee To Allah Ta'ala Ne Is Kee Aulaad Ko Aag Par Haraam Kar Diya."

---

AL-HADITH RAQM 55: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/165, RAQM-4726,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 05/223, RAQM-1829,

ABOO NU'AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA' WA TABAQAT-UL-ASFIYA', 04/188,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI' AS-SAGHIR, 02/462.

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

56/56. عَنِ الْمِسْوَرِ: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُ فَيَلْقَانِي فِي الْعَتَمَةِ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ الْمِسْوَرُ وَأَثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ وَآيَمِ اللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَسَبِكُمْ وَ سَبَبِكُمْ وَ صِهْرِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَتَبَضَّنِي مَا يَتَبَضَّنِي مَا يَبْسُطُهَا وَ يَبْسُطُهَا، وَ إِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَ سَبَبِي وَ صِهْرِي وَ عِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضْتُهَا ذَلِكَ فَانْطَلِقْ عَادِرًا لَهُ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ubayd Allah Bin Abi Rafi’ Se Hazrat Miswar RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Hazrat Hasan Bin Hasan ‘Alayh-is-Salam Ne Unhe’n Bula Bheja Apni Beti Kee Mangni Karne Ke Liye Aap Ne Un Se Kaha Kee Aap Raat Ke Waqt Mujhe Milen. Raawi Bayan Karte Hain Ki Pas Woh Un Se Mile Phir Hazrat Miswar RadiyAllahu ‘Anhu Ne Allah Ta’ala Kee Hamd-o Sana’ Bayan Kee Phir Kaha: Khuda Kee Qasam Koi Aisa Nasab Aur Na Hee Sabab Aur Na Hee Susraali Rishtah Aisa Hai Jo Mujhe Aap Ke Nasab, Sabab Aur Susraal Se Badh Kar Pyaara Hai Magar Yeh Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah

Mere Jigar Ka Tukada Hai Jo Cheez Use Pareshaan Karti Hai Woh Mujhe Bhi Pareshaan Karti Hai Aur Jo Cheez Use Khush Karti Hai Woh Mujhe Bhi Khush Karti Hai Aur Be-Shak Ansaab Qiyamat Ke Roz Munqati' Ho Jaa'enge Siwaa'e Mere Nasab, Sabab Aur Susraal Ke Aur Tumhare Paas Hazrat Fatimah Kee Beti Hai (Ya'ni Tumhari Beti Goya Un Kee Beti Hai) Aur Agar Main Us Se Shaadi Karta Hoo'n To Yeh Cheez Unhe'n Naa Khush Karegi Aur Phir Woh Ma'zirat Karte Huwe Chal Pade."

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

57/57. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجَحْفَةِ فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِأَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ: عَنِ الْقُرْآنِ وَعَنْ عِترَتِي. أَلَا وَلَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضَلُّوا وَلَا تَخْلَفُوا عَنْهَا فَتَهْلِكُوا وَلَا تَعْلَمُوهَا فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ قُوَّةَ رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ. لَوْلَا أَنْ تَبَطَّرَ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتَهَا بِمَا لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خِيَارٌ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

“Hazrat Abd Allah Bin Hantab RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ek Daf’a Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jahfah Ke Maqaam Par Ham Se Mukhaatib Huwe Aur Farmaya: Kya Main Tumhari Jaano’n Se Badh Kar Tumhe’n

---

AL-HADITH RAQM 57: AKHRAJAHU ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 09/64, IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH, 03/147,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 05/195.

Aziz Nahin Hoo'n? Sahaba'e Kiram Ridwanu Allahi Ta'ala 'Alayhim Ajma'in Ne Arz Kiya: Kyoo'n Nahin Ya RasoolAllah! Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Pas Main Tum Se Do Chizo'n Ke Baare Sawaal Karne Waala Hoo'n. Qur'an Ke Baare Aur Apni Itrat Ahle Bait Ke Baare. Aagaah Ho Jaao Ki Quraysh Par Pesh Qadami Na Karo Ki Tum Gumraah Ho Jaao Aur Na Unhe'n Sikhaao Ki Woh Tum Se Ziyada Jaan'ne Waale Hain Aur Agar Quraysh Fakhr Na Karte To Main Zaroor Un Ko Allah Ke Haa'n Un Ke Maqaam Ke Baare Bataata Quraysh Men Beh-Tareen Log Tamaam Logo'n Se Beh-Tareen Hain."

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Ne Riwayat Kiya Hai.

58/58. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ بَسَطَ شِمْلَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا هُوَ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِهِ فَعَقَدَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، ارْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا عَنْهُمْ رَاضٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'ah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Woh Huzoor Nabīye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargahe Aqdas Men Haazir Huwe. Dar-Aa'n-Haale-Ki Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Chaadar Bichhaa'i Hu'i Thi. Pas Us Par Huzoor Nabīye Akram (Ba Nafse Nafis) Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn 'Alayhim-us-Salam Baith Ga'e Phir Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala

---

AL-HADITH RAQM 58: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 05/348, RAQM-5514,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/169.

Aalihi Wa-Sallam Ne Us Chaadar Ke Kanaare Pakde Aur Un Par Daal Kar Us Men Gireh Laga Dee. Phir Farmaya: Ae Allah! Too Bhi In Se Raazi Ho Jaa, Jis Tarh Main In Se Raazi Hoo'n."

Ise Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

59/59. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْلِفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu 'Anhuma Bayan Karte Hain Ki Aakhiri Cheez Jo Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Irshad Farmaa'i Woh Yeh Thi Ki Mujhe Mere Ahle Bait Men Talaash Karo."

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

60/60. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ مَنْ أَسْفَعَ لَهُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ الْأَقْرَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ مَنْ آمَنَ بِي، وَاتَّبَعَنِي مِنَ الْيَمَنِ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَرَبِ ثُمَّ الْأَعَاجِمُ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْفَعَ لَهُ أَوْلَاؤُا الْفَضْلِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

AL-HADITH RAQM 59: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 04/157, RAQM-3860,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/163.

AL-HADITH RAQM 60: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 12/421,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/23, RAQM-29,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 10/380.



“Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Apni Ummat Men Se Sab Se Pehle Jis Ke Liye Main Shafa’at Karunga Woh Mere Ahle Bait Hain, Phir Jo Quraysh Men Se Mere Qaribi Rishtedaar Hain, Phir Ansaar Kee Phir Un Ke Jo Yaman Men Se Mujh Par Iman Laa’e Aur Meri Ittiba’ Kee, Phir Tamam Arab Kee, Phir Ajam Kee Aur Sab Se Pehle Main Jeen Kee Shafa’at Karunga Woh Ahle Fazl Honge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

61/61. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْعَقِدُ قَدَمًا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقَبِيلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ فَضْرَبَ يَدِهِ عَلَيَّ مِنْكَبٍ عَلَيَّ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Barzah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aadami Ke Dono’n Qadam (Roze Qiyamat) Us Waqt Tak Istiqamat Nahin Paate Jab Tak Us Se Chaar Chizo’n Ke Baare Sawaal Na Kar Liya Jaa’e’n Us Ke Jism Ke Baare Men Ki Kis Cheez Men Us Ne Is Ko Imtehaan Men Daala Aur Us Kee Umr Ke Baare Men Ki Kis Cheez Men Us Ne Is Ko Fana Kiya Aur Us Ke Maal Ke Baare Men Ki Kaha’n Se Us Ne Ise Kamaaya? Aur Kis Cheez Men Us Ne Us Ko

---

AL-HADITH RAQM 61: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 02/348, RAQM-2191,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 10/346.

Kharch Kiya? Aur Ahle Bait Kee Mahabbat Ke Baare. Pas Arz Kiya Gaya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Kee Mahabbat Kee Kya Alaamat Hai? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apna Daste Aqdas Hazrat Ali Ke Kandhe Par Maara.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

al-Bābu al-Thānī:

مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا

﴿Sayyida'e Kā'enāt Fāṭimah  
Zahrā' Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke  
Manāqib﴾

1. فَضْلٌ فِي كَوْنِ آلِ فَاطِمَةَ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ

الْبَيْتِ وَ أَهْلِ كِسَاءِ

﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi ‘Alayhā Ke  
Gharāne Kā Ahle Bait Aur Ahle Kishā’ Hone Kā  
Bayān﴾

1/62 . عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ  
عِدَاةً وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ، مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﷺ  
فَادْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ ﷺ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ﷺ  
فَادْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ ﷺ فَادْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1883, RAQM-2424,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/380, RAQM-36102,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/672, RAQM-II49,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 03/678, RAQM-I271,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHHAYN, 3/169, RAQM-4707,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/149,

TABARI FI JAMI'-UL-BAYANI 'AN TA'WILI AAYI-'L-QUR'AN  
TAFSIR-UT-TABARI, 22/06, 07.

## رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Safiyyah Bint Shaybah RadiyAllahu ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sub’h Ke Waqt Baahar Tashrif Laa’e Dar-Aa’n-Haale-Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Chaadar Odhee Hu’i Thi Jis Par Siyaah Oon Se Kajaawon Ke Naqsh Bane Huwe The. Hazrat Hasan Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Us Chaadar Men Daakhil Kar Liya, Phir Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhu Aa’e Aur Un Ke Ham-Raah Chaadar Men Daakhil Ho Ga’e, Phir Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Aa’e Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ko Is Chaadar Men Daakhil Kar Liya, Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Chaadar Men Le Liya. Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Yeh Aayate Mubaraka Padhi: “Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Durr Kar De Aur Tum Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

2/63. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ  
الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

---

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/351,  
663, RAQM-3205,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/292, AHMAD BIN  
HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/587, RAQM-994,

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا  
فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٍّ ﷺ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ،  
هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. رَوَاهُ  
التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Parwarda’e Nabi Hazrat Umar Bin Abi Salmah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Hazrat Umme Salamah Ke Ghar Men Yeh Aayate Mubaraka..... Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Durr Kar De Aur Tum Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De..... Naazil Hu’i. To Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Sallam Ne Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhum Ko Bulaaya Aur Ek Kamli Men Dhaanp Liya. Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Kamli Men Dhaanp Liya, Phir Farmaya: Ilaahi! Yeh Mere Ahle Bait Hain, In Se Najaasat Dur Kar De Aur In Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 02/451, RAQM-3558,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/158, RAQM-4705,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/52, RAQM-2662.

---

3/64. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ: الصَّلَاةُ! يَا أَهْلَ الْبَيْتِ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Chheh-06 Maah Tak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Yeh Ma’mool Raha Ki Jab Namaze Fajr Ke Liye Nikalte Aur Hazrat Fatimah Salamu Allahi ‘Alayha Ke Darwazah Ke Paas Se Guzarte To Farmaate: Ae Ahle Bait! Namaz Qaa'im Karo (Aur Phir Yeh Aayate Mubaraka Padhte: )..... Ae Ahle Bait! Allah Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Durr Kar De Aur Tum Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/352, RAQM-3206,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/259, 285,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/761, RAQM-I340, I341,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/388, RAQM-32272,

SHYBANI FI AL-AHD WA'L-MATHANI, 05/360, RAQM-2953,

ABD ALLAH BIN HUMAYD AL-MUSNAD, /367, RAQM-I2223,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/172, RAQM-4748.

4/65. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسَةِ: فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ عَلِيٍّ، وَ فَاطِمَةَ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Ne Allah Ta’ala Ke Is Irshade Mubarakah..... Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Durr Kar De..... Ke Baare Men Kaha Hai Ki Yeh Aayate Mubaraka Paanch-05 Hastiyon..... Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam, Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhum..... Ke Baare Men Naazil Hu’i.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 4: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/380, RAQM-3456,

TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 01/231, RAQM-375,

IBN HIBBAN FI TABQAT-UL-MUHADDITHIN BI-ASBAHAN, 03/384,

KHATIB FI TARIKH BAGHDAD, 10/278,

TABARI FI JAMI’-UL-BAYAN, 22/07.



## 2. فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ

اللَّهُ  
وَالرَّسُولِ

﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Kā

Lakhte Jigare Muṣṭafá ﷺ Hone Kā Bayān﴾

5/66. عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah Mere Jism Ka Tukada Hai, Pas Jis Ne Use Naaraaz Kiya Us Ne Mujhe Naaraaz Kiya.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hain.

---

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1361,  
RAQM-3510, BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1373, RAQM-3556,  
MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1903, RAQM-2449,  
IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/388, RAQM-32269,  
ABOO AWANAH AL-MUSNAD, 03/70, RAQM-4233,  
SHAYBANI FI AL-AHD WA'L-MATHANI, 05/361, RAQM-2954,  
TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 202/404, RAQM-1012.

6/67. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي رِوَايَةٍ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ.  
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ  
 هَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ.  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Fatimah Mere Jigar Ka Tukada Hai Aur Mujhe Hargiz Yeh Pasand Nahin Ki Shakhs Use Taklif Pahonchaa’e Khuda Kee Qasam Kisi Shakhs Ke Paas RasoolAllah Aur Dushmane Khuda Kee Betiya’n Jam’a Nahin Ho Sakti.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 6: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1364,  
 RAQM-3523,  
 MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1903, RAQM-2448,  
 IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/644, RAQM-1999,  
 AHMAD BIN HANBL FI FAZA’IL-US-SAHABAH, 02/759, RAQM-1335,  
 IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/407, 408, 535, RAQM-6956, 6957,  
 7076,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 20/18, 19, RAQM- 18, 19,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/405, RAQM-1013.

7/68. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :

Fatimah Mere Jism Ka Tukada Hain, Pas Jis Ne Use Naaraaz Kiya Us Ne Mujhe Naaraaz Kiya.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.

8/69. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ الْمُنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلَيَّ

- 
- AL-HADITH RAQM 7: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1361, RAQM-3510, BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1374, RAQM-3556, IBN ABI SHAYBAH AL-MUSANNAF, 06/388, RAQM-32269, ABOO ‘AWANAH FI AL-MUSNAD, 03/70, RAQM-4633, SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/361, RAQM-2954, TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 202/404, RAQM-1012.
- AL-HADITH RAQM 8: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1902, RAQM-2449, TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/698, RAQM-3867, ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 02/226, RAQM-2071, IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/643, RAQM-1998, NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/147, RAQM-8518, AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/328, AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/756, RAQM-1328.

بَنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. وَقَالَ ﷺ: فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِيئِنِّي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Ne Riwayat Kiya Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Mimbar Par Farmate Suna: Bani Hisham Bin Mughirah Ne Apni Beti Ka Ali Se Rishtah Karne Kee Mujh Se Ijaazat Maangi Hai. Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta Do-Baara Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta, Seeh Baara Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Beti Mere Jism Ka Hissah Hai, Us Kee Pareshaani Mujhe Pareshaan Karti Hai Aur Us Kee Taklif Mujhe Taklif Deti Hai.”

Is Hadith Ko Imam Muslim, Tirmidhi, Aboo Dawud Aur Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

9/70. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/I903,

RAQM-2449,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/97, RAQM-8370,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 10/201,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/361, RAQM-2955,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/404, RAQM-1010,

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah To Bas Mere Jism Ka Tukada Hai, Use Taklif Dene Waali Cheez Mujhe Taklif Deti Hai.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

10/71. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا، وَ يُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah Mera Jigar Gaushah Hai, Use Taklif Dene Waali

---

ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 02/40,

ANDALUSI FI TUHFAT-UL-MUHTAJ, 02/585, RAQM-I795.

AL-HADITH RAQM IO: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/698, RAQM-3869,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/05,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/756, RAQM-I327,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/173, RAQM-475I,

MAQDISI FI AL-AHADITH-UL-MUKHTARAH, 09/314, 315, RAQM-274,

ASQALANI FI FAT’H-UL-BARI, 09/329,

SHAWKANI FI DARR-US-SAHABAH FI MANAQIB-IL-QARABAH WA’S-SAHABAH, 16/274.

Cheez Mujhe Taklif Deti Hai Aur Use Mashaqqat Men Daalne Waala Mujhe Mashaqqat Men Daalta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

11/72. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ: إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِعْضَبِكَ، وَيَرْضَى لِرِضَاكِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah Se Farmaya: Be-Shak Allah Ta’ala Teri Naaraazgi Par Naaraaz Hota Hai Aur Teri Riza Par Raazi Hota Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM II: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/167, RAQM-4730,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/366, RAQM-2959,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/108, RAQM-182, 22/401, RAQM-1001,

DAWLABI FI AZ-ZURRIYAH AT-TAHIRAH,/120, RAQM-235,

QAZWINI FI AT-TADWIN FI AKHBAR QAZWIN, 03/11.

12/73. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّمَا فَاطِمَةُ شَجْنَةٌ مِنِّي يَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا وَ يَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Fatimah Meri Beti Hai, Jis Cheez Se Ise Khushi Hoti Hai Us Cheez Se Mujhe Bhi Khushi Hoti Hai Aur Jis Cheez Se Use Taklif Pahonchti Hai Us Cheez Se Mujhe Bhi Taklif Pahonchti Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM I2: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/168, RAQM-4734,  
 AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/332, AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/765, RAQM-1347,  
 SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/362, RAQM-2956,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 20/25, RAQM-30,  
 ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 03/206,  
 HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/203.

### 3. فَضْلٌ فِيمَكَانَتِهَا سَلَامٌ لِلَّهِ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالرَّسُولِ ﷺ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār-Gāh Men  
Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi ‘Alayhā Ke  
Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

13/74. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ  
الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ،  
قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ  
يُقْبَضُ فِي وَجَعٍ ۚ الَّذِي تُؤْفِي فِيهِ، فَبَكَيتُ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي  
أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hai Ki Huzoor  
Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apne  
Maraze Wisaal Men Apani Saahib-Zaadi Hazrat Fatimah RadiyAllahu  
‘Anha Ko Bulaaya Phir Un Se Kuchh Sargoshi Farmaa’i To Woh Rone  
Lagi’n. Phir Unhe’n Qareeb Bula Kar Sargoshi Kee To Woh Hans Padi.

AL-HADITH RAQM 13: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1361,  
RAQM-3511,  
BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1327, RAQM-3427,  
MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1904, RAQM-2450,  
NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH/77, RAQM-296,  
AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/77,  
AHMAD BIN HANBAL FI FAZA’IL-US-SAHABAH, 02/754, RAQM-  
1322.



Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain: Main Ne Us Baare Men Sayyidah ﷺ Se Poochha To Unhone Bataaya: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mere Kaan Men Farmaya Ki Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Isi Maraz Men Wisaal Ho Jaa'ega. Pas Main Rone Lagi, Phir Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sargoshi Karte Huwe Mujhe Bataaya Ki Mere Ahle Bait Men Sab Se Pehle Tum Mere Ba'd Aa'ogi Us Par Main Hans Padi."

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

14/75. عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ النَّيْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلِي عَائِشَةَ، فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ، فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَّامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

"Hazrat Jumay Bin Umayr Taymi Bayan Karte Hain Ki Main Apni Phuphi Ke Humraah Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Kee

---

AL-HADITH RAQM 14: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/701, RAQM-3874,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/171, RAQM-4744,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 22/403, 404,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA'REFAT-IS-SAHABAH, 07/219,

DHAHABI FI SIYAR A'LAM AN-NUBULA', 02/125,

MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 04/512,

SHAWKANI FI DARR-US-SAHABAH FI MANAQIB-IL-QARABAH WA'S-SAHABAH, 01/273.

Khidmat Men Haazir Huwa Aur Poochha: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Kaun Ziyaada Mahboob Tha? Umm-ul-Mu’minin RadiyAllahu ‘Anha Ne Farmaya: Fatimah سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا. Arz Kiya Gaya: Mardo’n Men Se (Kaun Ziyaada Mahboob Tha)? Farmaya: Un Ke Shauhar, Jaha’n Tak Main Jaanti Hoo’n Woh Bohat Ziyaada Roze Rakhne Waale Aur Raaton Ko Ibaadat Ke Liye Bohat Qiyaam Karne Waale The.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

15/76. عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Buraydah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Aurato’n Men Sab Se Ziyaada Mahabbat Hazrat Fatimat-uz-Zahra سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا Se Thi Aur Mardo’n Men Se Hazrat Ali Al-Murtada KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Sab Se Ziyaada Mahboob The.”

---

AL-HADITH RAQM 15: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/698,

RAQM-3868,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/140, RAQM-8498,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/168, RAQM-4735,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 07/199, RAQM-7262,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBULA’, 02/131,

SHAWKANI FI DARR-US-SAHABAH, 10/274.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Nisa'i Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

16/77. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

“Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Azaad Kardah Ghulaam Hazrat Thawban RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Safar Ka Iradah Farmate To Apne Ahl-o Ayaal Men Se Sab Ke Ba’d Jis Se Guftugu Farma Kar Safar Par Rawaanah Hote Woh Hazrat Fatimah ﷺ Hoti’n Aur Safar Se Waapasi Par Sab Se Pehle Jis Ke Paas Tashrif Laate Woh Bhi Hazrat Fatimah ﷺ Hoti’n.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

17/78. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَاهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى

---

AL-HADITH RAQM 16: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/87,  
RAQM-4213,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/275,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 01/26,

ZAYD AL-BAGHDADI FI TARAKT-UN-NABI ﷺ: 57.

AL-HADITH RAQM 17: AKHRAJAHU AL-NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
05/391, 392, RAQM-9236, 9237,

يُجَلِّسَهَا فِي مَكَانِهِ. وَكَانَتْ إِذَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ رَحَبَتْ بِهِ، ثُمَّ قَامَتْ  
إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ﷺ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ.

“Umm-ul-Mu’minin Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayaan Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Ko Aate Huwe Dekhte To Unhe’n Khush Aamadid Kehte, Phir Un Kee Khaatir Khade Ho Jaate, Unhe’n Bosa Dete, Un Ka Haath Pakad Kar Laate Aur Unhe’n Apni Nishist Par Bitha Lete Aur Jab Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Apni Taraf Tashrif Laate Huwe Dekhte To Khush Aamadid Kehte Phir Khade Ho Jaate Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Bosa Dete.”

Is Hadith Ko Imam Nisa’i Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai.

18/79. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ  
وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ  
سَالَمَكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/403, RAQM-6953,

BUKHARI FI AL-ADAB-UL-MUFRAJ, 01/336, RAQM-947,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/367, RAQM-2967,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 04/243, RAQM-4089,

DULABI FI AZ-ZURRIYAH AT-TAHIRAH, 01/100, RAQM-I84.

AL-HADITH RAQM I8: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,

02/442,

FAZA’IL-US-SAHABAH, 02/767, RAQM-I350,

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn RadiyAllahu Ta’ala Anhum Kee Taraf Nazre Iltifaat Kee Aur Farmaya: Jo Tum Se Ladega Main Us Se Ladunga, Jo Tum Se Sulh Karega Main Us Se Sulh Karunga (Ya’ni Jo Tumhara Dushman Hai Woh Mera Dushman Hai Aur Jo Tumhara Dost Hai Woh Mera Bhi Dost Hai).”

Is Hadith Ko Ahmad Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

19/80. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ (فَاطِمَةَ) إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ﷺ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَ أَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Umm-ul-Mu'minin Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayaan Karti Hain Ki Jab Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/161, RAQM-4713,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/40, RAQM-2621,

KHATIB FI TARIKH BAGHDADI, 07/137,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBULA’, 02/122, 03/257, 258.

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/167, RAQM-4732,

NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH, 01/78, RAQM-264,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 01/08, RAQM-06,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/101,

BAYHAQI FI SHU’B-UL-IMAN, 06/467, RAQM-8927,

MUQRI FI TAQBIL-UL-YAD, 01/91,

ASQALANI FI FAT’H-UL-BARI, II/50.

Haazir Hote'n To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Saiyyidah ﷺ Ko Khush Aamadid Kehte, Khade Ho Kar Un Ka Istiqbaal Karte, Un Ka Haath Pakad Kar Bosa Dete Aur Unhe'n Apni Nishist Par Bitha Lete."

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

20/81. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَامَ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَتْ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَةً وَقَبَّلَتْ يَدَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Umm-ul-Mu'minin Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain: Sayyidah Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men Haazir Hote'n To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Khade Ho Kar Un Ka Istiqbaal Farmate, Unhe'n Bosa Dete Khusha Aamadid Kehte Aur Un Ka Haath Pakad Kar Apni Nishist Par Bitha Lete, Aur Jab Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sayyidah Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Ke Haa'n Raunaq Afroz Hote

---

AL-HADITH RAQM 20: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/183, RAQM-4753,

MUHIIBB TABARI FI DHAKHA'IR-UL-'UQBA FI MANAQIBI DHAWI-'L-QURBA,/85,

HAYTHAMI FI MAJAM'-UZ-ZAWA'ID,/549, RAQM-2223,

ASQALANI FI FAT'H-UL-BARI, II/50, WA

SHAWKANI FI DARR-US-SAHABAH FI MANAQIB-IL-QARABAH WA'S-SAHABAH, 01/279.

To Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Bhi Aap Ke Istiqbaal Ke Liye Khadi Ho Jaati'n Aur Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Daste Aqdas Ko Bosa Deti'n."

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

21/82. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فَاطِمَةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِدَاكِ أَبِي وَأُمِّي.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

"Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu 'Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Safar Ka Iraada Farmate To Apne Ahl-o Ayaal Men Se Sab Ke Ba'd Jis Se Guftugu Kar Ke Safar Par Rawaana Hote Woh Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Hoti'n, Aur Safar Se Waapasi Par Sab Se Pehle Jis Ke Paas Tashrif Laate Woh Bhi Hazrat Fatimah سلام الله عليها Hee Hoti'n, Aur Yeh Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Se Farmate: (Fatimah!) Mere Maa'n Baap Tujh Pe Qurbaan Ho'n."

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 21: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/169, 170, RAQM-4739, 4740,  
 IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 02/470, 471, RAQM-696,  
 HAYTHAMI FI MAWARID AL-ZAM'AN ILA ZAWA'ID IBN HABBAN,/63I, RAQM-2540,  
 IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 43/141.

22/83. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Ali Ne (Bargahe Risalat Ma’ab SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Men) Arz Kiya: Ya RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam! Aap Ko Mere Aur Hazrat Fatimah Men Se Kaun Ziyada Mahboob Hai? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah Mujhe Tum Se Ziyaada Pyaari Hai, Aur Tum Mere Nazdik Us Se Ziyaada Aziz Ho.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 22: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 07/343, RAQM-7675,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/173,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI’ AS-SAGHIR, 04/422.



## 4. فَضْلٌ فِي كَوْنِهَا سَلَامٌ لِلَّهِ عَلَيْهَا سَيِّدَةَ نَسَاءِ

### العَالَمِينَ

﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Kā  
Sāre Jahānoñ Kī 'Auratoñ Kī Sardār Hone Kā  
Bayān﴾

23/84. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مَشِيئَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسْرَأَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسْرَأَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسْرَأَ إِلَيَّ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي. فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ، أَنْ

AL-HADITH RAQM 23: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1326,

1327, RAQM-3426, 3427,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1904, RAQM-2450,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/282.

تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Hazrat Fatimat-uz-Zahra RadiyAllahu ‘Anha Aae’n Aur Un Ka Chalna HooBahu Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Chalne Jaisa Tha. Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apni Lakhte Jigar Ko Khush Aamadid Kaha Aur Apne Daa’in Ya Baa’in Jaaninb Bitha Liya, Phir Chupke-Chupke Un Se Koi Baat Kahi To Woh Rone Lagi’n. To Main Ne Un Se Poochha Ki Aap Kyun Ro Rahi Hain? Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Se Koi Baat Chupke-Chupke Kahi To Woh Hans Padi’n. Pas Main Ne Kaha Ki Aaj Kee Tarh Main Ne Khushi Ko Gham Ke Itne Nazdik Kabhi Nahin Dekha. Main Ne (Hazrat Fatimat-uz-Zahra RadiyAllahu ‘Anha Se) Poochha: Aap Se Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kya Farmaya Tha? Unhone Jawaab Diya: Main RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallamn Ke Raaz Ko Faash Nahin Kar Sakti. Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Wisaal Ho Gaya To Main Ne Un Se (Us Baare Men) Phir Poochha To Unhone Jawaab Diya: Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujh Se Yeh Sargoshi Kee Ki Jibra’il Har Saal Mere Saath Qur’ane Karim Ka Ek Daur Kiya Karte The Lekin Is Saal Do-02 Martaba Kiya Hai, Mera Khayaal Yahi Hai Ki Mera Aakhiri Waqt Aa Pahoncha Hai Aur Be-Shak Mere Ghar Waalo’n Men Se Tum Ho Jo Sab Se Pehle Mujh Se Aa Milog. Is Baat Ne Mujhe Rula Diya, Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Tum Is Baat Par Raazi Nahin Ki Tum Tamam Jannati Aurato’n Kee Sardaar Ho Ya

Tamam Musalman Aurato'n Kee Sardaar Ho! To Is Baat Par Main Hans Padi.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

24/85. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا فَاطِمَةَ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ummu Al-Mu'minin Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ne Farmaya: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu 'Anha Se Farmaya: Ae Fatimah! Kya Too Is Baat Par Raazi Nahin Hai Ki Tum Musalman Aurato'n Kee Sardaar Ho Ya Meri Is Ummat Kee Sab Aurato'n Kee Sardaar Ho.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/2317, RAQM-5928,  
 MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1905, RAQM-2450,  
 NASA'I FI FADA'IL AL-SAHABAH, : 77, RAQM-263,  
 AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/762, RAQM-1342,  
 TAYALISI FI AL-MUSNAD, /196, RAQM-1373,  
 IBN SA'D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/247.

25/86. عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Hudhayfah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ek Firishta Jo Is Raat Se Pehle Kabhi Zameen Par Na Utra Tha, Us Ne Apne Parwardigaar Se Ijaazat Maangi Ki Mujhe Salam Karne Haazir Ho Aur Mujhe Yeh Khush-Khabari De Ki Fatimah Ahle Jannat Kee Tamam Aurato’n Kee Sardaar Hai Aur Hasan Wa Husayn Jannat Ke Jawaano’n Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Nasa’i Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 25: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/660, RAQM-3871,  
 NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/80, 95, RAQM-8298, 8365,  
 NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH, /58, 76, RAQM-193, 260,  
 AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/391,  
 AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/788, RAQM-1406,  
 IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/388, RAQM-32271,  
 HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/164, RAQM-4721, 4722.

26/87. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خَطُوطٍ. قَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَّةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Zameen Par Chaar-04 Lakire’n Khinchin Aur Farmaya: Tum Jaante Ho Yeh Kya Hai? Sahaba’e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’in Ne Arz Kiya: Alla Aur Us Ka Rasool ﷺ Behtar Jaante Hain Phir RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ahle Jannat Kee Aurato’n Men Se Afzal-Tareen (Chaar) Hain: Khadijah Bint Khuwaylid, Fatimah Bint Muhammad, Fir’awn Kee Biwi Aasiyah Bint Muzaahim Aur Maryam Bint Imaran RadiyAllahu ‘Anhunna Ajmaeen.”

---

AL-HADITH RAQM 26: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/293, 316,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/93, 94, RAQM-8355, 8364,

NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH, /74, 76, RAQM-250, 259,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/470, RAQM-7010,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 02/539, RAQM-3836,

03/174, RAQM-4752, 4754,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/760, 761,

RAQM-I339.

Ise Imam Ahmad Bin Hanbal Aur Imam Nasa'i Ne Riwayat Kiya Hai.

27/88. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ: يَا فَاطِمَةَ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Fatimah! Kya Too Nahin Chahti Ki Too Tamam Jahaano'n Kee Aurato'n, Meri Is Ummat Kee Tamam Aurato'n Kee Aur Mu'minin Kee Tamam Aurato'n Kee Sardaar Ho!”

Ise Imam Nasa'i Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 27: AKHRAJAHU AL-NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
04/251, RAQM-7078,  
05/146, RAQM-8517,  
HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/170, RAQM-4740,  
IBN SA'D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/247, 248,  
08/26, 27,  
IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA'REFAT-IS-SAHABAH,  
07/218.

28/89. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارِنِي، فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي، فَبَشَّرَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي: أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أُمَّتِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aasmaan Ke Ek Firishte Ne Meri Ziyaarat Nahin Kee Thi, Pas Us Ne Allah Ta’ala Se Meri Ziyaarat Kee Ijaazat Lee Aur Us Ne Mujhe Khush-Khabari Sunaa’i (Yaa) Mujhe Khabar Dee Fatimah Meri Ummat Kee Aurato’n Kee Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Aur Imam Bukhari Ne “At-Tarikh-ul-Kabir” Men Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 28: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/403, RAQM-1006,  
 BUKHARI FI AT-TARIKH-UL-KABIR, 01/232, RAQM-728,  
 DHABABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBULA’, 02/127,  
 MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 26/391.

## 5. فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَاجِهَا سَلَامٌ اللّٰهِ عَلَيْهَا

﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi ‘Alayhā Kī  
Shādī Se Muta‘alliqah Umūr Kā Bayān﴾

29/90. عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فَاطِمَةَ  
بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ هَا، وَاللّٰهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ  
وَ بِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Fatimah Mere Jigar Ka Tukada Hai Aur Us Kee Naaraazgi Mujhe Pasand Nahin. Khua Kee Qasam Kisi Shakhs Ke Paas RasoolAllah Aur Dushman Khuda Kee Betiya’n Jam’a Nahin Ho Sakti’n.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1364,  
RAQM-3523,  
MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1903, RAQM-2448,  
IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/644, RAQM-I999,  
AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/759, RAQM-  
I335,  
IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/407, 408, 535, RAQM-6956, 6957,  
7060,  
TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 20/18, 19, 22/405, RAQM-  
1013.



30/91. عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. وَقَالَ ﷺ: فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Miswar Bin Makhramah RadiyAllahu ‘Anhu Ne Riwayat Kiya Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Mimbar Par Farmate Suna: Bani Hishaam Bin Mughirah Ne Apni Beti Ka Ali Se Rishta Karne Kee Mujh Se Ijaazat Maangi Hai. Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta Do Baarah Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta, Seh Baarah Main Unhe’n Ijaazat Nahin Deta Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Yeh Bhi Farmaya: Meri Beti Mere Jism Ka Hissa Hai, Us Kee Pareshaani Mujhe Pareshaan Karti Hai Aur Us Kee Taklif Mujhe Taklif Deti Hai.”

---

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJA MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1902, RAQM-2449,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/698, RAQM-3867,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 02/226, RAQM-2071,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/643, RAQM-1998,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/147, RAQM-8518,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/328,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/756, RAQM-1328.

Is Hadith Ko Imam Muslim, Tirmidhi, Aboo Dawud Aur Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

31/92. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبَنَائِي، قَالَ: يَا عَلِيُّ، لَا تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي، فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلِيَّ عَلِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي سَبِيلِهِمَا.

و في رواية عنه: وَ بَارِكْ لَهُمَا فِي نَسْلِهِمَا.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Buraydah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali Aur Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Shaadi Kee Raat Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Farmaya: Mujhe Mile Baghair Koi Amal Na Karna Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Paani Mangwaaya, Is Se Wuzoo Kiya Phir Hazrat Ali

AL-HADITH RAQM 31: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
06/76, RAQM-10088,

NASA’I FI ‘AMAL-UL-YAWMI WA’L-LAYLAH, /253, RAQM-258,

ROOYANI FI AL-MUSNAD, 01/77, RAQM-35,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 02/20, RAQM-II53,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH,  
07/217,

IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 08/21,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/209.

RadiyAllahu 'Anhu Par Paani Daal Kar Farmaaya: Ae Allah! In Dono'n Ke Haq Men Barakat Aur In Dono'n Par Barakat Naazil Farma, In Dono'n Ke Liye In Kee Aulad Men Barakat Ata' Farma.”

Is Hadith Ko Imam Nasa'i Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

32/93. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِبٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas'ood RadiyAllahu 'Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Ta'ala Ne Mujhe Hukm Farmaya Hai Ki Main Fatimah Ka Nikaah Ali Se Kar Du'n.”

Is Hadith Ko Imam Tabrani Ne Riwayat Kiya Hai.

33/94. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِبٍ: هَذَا جَبْرِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ، وَ

---

AL-HADITH RAQM 32: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 10/156, RAQM-10305,

HUSAYNI FI AL-BAYAN WA'T-Ta'RIF, 01/174, RAQM-455,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/204,

HALABI FI AL-KASHF-UL-HATHITH, 01/174,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI' AS-SAGHIR, 02/215.

AL-HADITH RAQM 33: AKHRAJAHU AL-MUHIBB-UD-DEEN TABARI FI AR-RYAD-UN-NADIRAH FI MANAQIB-IL-'ASHRAH, 03/146,

أَشْهَدَ عَلَيَّ تَزْوِيجَكَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ، وَ أَوْحَى إِلَيَّ شَجَرَةَ طُوبَى أَنْ  
 انْشَرِي عَلَيْهِمُ الدَّرَّ وَالْيَاقُوتَ، فَنَشَرْتُ عَلَيْهِمُ الدَّرَّ وَالْيَاقُوتَ، فَابْتَدَرْتُ  
 إِلَيْهِ الحُورُ العِينُ يَلْتَفِظْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، فَهَمَّ يَتَهَادُونَهُ بَيْنَهُمْ  
 إِلَيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ. رَوَاهُ مُحِبُّ الطَّبْرِيِّ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Masjid Men Tashrif Farma The Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Farmaya: Yeh Jibra’il عليه السلام Mujhe Bata Rahe Hain Ki Allah Ta’ala Ne Fartimah Se Tumhaari Shaadi Kar Dee Hai Aur Tumhare Nikaah Par Chaalis Hazaar 40.000 Firishton Ko Gawaah Ke Taur Par Majlise Nikaah Men Sharik Kiya Gaya, Aur Shajarah’a Tooba Se Farmaya: In Par Moti Aur Yaaqoot Nichhaawar Karo Phir Dilkash Aankhon Waali Hoore’n Un Motiyon Aur Yaaqooto’n Se Thaal Bharne Lagi’n. Jinhe’n (Taqrife Nikaah Men Shirkat Karne Waale) Firishte Qiyamat Tak Ek Doosre Ko Bataure Tahaa’if Denge.”

Is Hadith Ko Muhibb Tabari Ne Riwayat Kiya Hai.

34/95. عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَانِي مَلِكٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَ يَقُولُ لَكَ: إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ

---

MUHIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-  
 ‘L-QURBA, 01/72.

AL-HADITH RAQM 34: AKHRAJAHU MUHIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-  
 ‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-‘L-QURBA, 01/73.

فَاطِمَةُ ابْنَتِكَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَلَائِئَةِ الْأَعْلَى، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ  
فِي الْأَرْضِ. رَوَاهُ مُجِيبُ الطَّبْرِيِّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Se Riwayat Hai RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Paas Ek Firishte Ne Aa Kar Arz Kiya: Ae Muhammad! Allah Ta'ala Ne Aap Pas Salam Bheja Hai Aur Farmaya Hai: Main Ne Aap Kee Beti Fatimah Ka Nikaah Mala'e Aala Men Ali Bin Abi Talib Se Kar Diya Hai, Pas Aap Zameen Par Bhi Fatimah Ka Nikaah Ali Se Kar De'n.”

Is Hadith Ko Muhibb Tabari Ne Riwayat Kiya Hai.

## 6. فَضْلٌ فِي مَكَانَتِهَا سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

﴿Roze Qiyāmat Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi  
‘Alayhā Ke Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

35/96. عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ: إِنِّي وَإِيَاكِ وَ هَذَيْنِ وَ هَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَزَّازُ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Se Farmaya: (Ae Fatimah!) Main, Too Aur Yeh Dono’n (Hasan Wa Husayn) Aur Yeh Sone Waala (Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Kyun Ki Ua Waqt Aap So Kar Utthe Hee The) Roze Qiyamat Ek Hee Jagah Honge.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 35: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/101,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/692, RAQM-1183,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 03/29, 30, RAQM-779,

SHAYBANI FI AS-SUNNAH, 02/598, RAQM-I322,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/169, 170,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH, 07/220.

36/97. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادِي مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رضي الله عنها حَتَّى تَمُرَّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Huwe Suna: Qiyamat Ke Din Ek Needa’ Dene Waala Parde Ke Pichhe Se Aawaaz Dega: Ae Ahle Mehshar! Apni Nigaahen Jhuka Lo Taa Ki Fatimah Bint Mustafa SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Guzar Jaaen.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

37/98. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَبِعْتُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيُؤَافُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْمِهِمُ الْمُحْشَرِّ، وَ يُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَيَّ نَاقَتِهِ، وَ أُبْعَثُ عَلَيَّ الْبُرَاقِ حَطُّوْهَا عِنْدَ أَفْصَى طَرْفِهَا، وَ تَبْعَتْ فَاطِمَةَ أُمَامِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

---

AL-HADITH RAQM 36: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/166, RAQM-4728,

MUHIIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-‘L-QURBA, 01/94,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH, 07/220,

AJLOONI FI KASHF-UL-KHAFI’, 01/101, RAQM-263.

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/166, RAQM-4727.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Anbiya’e Kiram Qiyamat Ke Din Suwaari Ke Jaanwaron Par Suwaar Ho Kar Apni-Apni Qaum Ke Musalmanon Ke Saath Maidane Mehshar Men Tashrif Laa’enge Aur Saaleh Apni Ootani Par Laa’e Jaa’enge Aur Mujhe Buraaq Par Laaya Jaa’ega, Jis Ka Qadam Us Kee Muntaha’e Nigah Par Padega Aur Mere Aage-Aage Sayyidah Fatimah Hongi.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

38/99. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَجْبُونًا؟ قَالَ: مِنْ وَرَائِكُمْ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Bataaya: (Mere Saath) Sab Se Pehle Jannat Men Daakhil Hone Waalo’n Men, Main, Fatimah, Hasan Aur Husayn Honge. Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Ham Se Mahabbat Karne Waale Kaha’n Honge? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhare Pichhe Honge.”

---

AL-HADITH RAQM 38: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/164, RAQM-4723,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 14/173,

HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, 12/98, RAQM-34166,

HAYTAMI FI AS-SAWA’IQ-UL-MUHRIQAH, 02/448,

MUHIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-‘L-QURBA, 01/214.



Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

39/100. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ مُجْتَمِعُونَ وَ مَنْ أَحَبَّنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْكُلُ وَ نَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main, Ali, Fatimah, Hasan Wa Husayn Aur Ham Se Mahabbat Karne Waale Sab Roze Qiyamat Ek Hee Jagah Ikaththe Honge. Qiyamat Ke Din Hamara Khaana Pina Bhi Ikaththa Hoga, Yaha’n Tak Ki Logo’n Men Faisle Kar Diye Jaa’enge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

40/101. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُبَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ الْخَطِيبُ.

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne

---

AL-HADITH RAQM 39: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/4I, RAQM-2623,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/174.

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU KHATIB AL-BAGHDADI FI TARIKH BAGHDAD, 08/142,

MUHIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-‘L-QURBA./94.

Farmaya: Roze Qiyamat Ek Needa’ Dene Waala Aawaaz Dega: Apni Nigaahe Jhuka Lo Taa Ki Fatimah Bint Muhammad Mustafa SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Guzar Jaaen.”

Is Hadith Ko Khatib Baghdadi Ne Riwayat Kiya Hai.

41/102. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُمِلْتُ عَلَيَّ الْبُرَاقِ وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيَّ نَاقَةَ الْعَضْبَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ.

“Hazrat Ali Bin Abi Talib RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Qiyamat Ke Din Mujhe Buraaq Par Aur Fatimah Ko Meri Suwaari Azbaa’ Par Bithaaya Jaaega.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Asakir Ne Riwayat Kiya Hai.

42/103. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادِي مُنَادٍ مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ، نَكِسُوا رُؤُوسَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ

---

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 10/353.

AL-HADITH RAQM 42: AKHRAJAHU MUHIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI’L-QURBA, 01/94,

HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, 12/105, 106, RAQM-34210,

IBN JAWZI TADHKIRAT-UL-KHAWASS, 01/279,

HAYTAMI FI AS-SAWA’IQ-UL-MUHRIQAH, 02/557,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAM’ AS-SAGHIR, 01/420, 429.

حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَي الصِّرَاطِ فَتَمُرُّ وَ مَعَهَا سَبْعُونَ  
أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ. رَوَاهُ مُجِيبُ الطَّبْرِيِّ.

“Hazrat Aboo Ayyub Ansari RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai: Roze Qiyamat Arsh Kee Gehraaiyon Se Ek Needa Dene Waala Aawaaz Dega: Ae Mehshar Waalo'n! Apne Saron Ko Jhuka Lo Aur Apni Nigaahen Nichi Kar Lo Taa Ki Fatimah Bint Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Pool Siraat Se Guzar Jaen. Pas Aap Guzar Jaa'engi Aur Aap Ke Saath Hoorai'yn Men Se Chamakti Bijliyon Kee Tarh Sattar Hazaar-70.000 Khaadimaen Hongi.”

Is Hadith Ko Muhibb Tabari Ne Riwayat Kiya Hai.

43/104. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُحَشَرُ ابْنَتِي فَاطِمَةُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا حُلَّةُ الْكِرَامَةِ قَدْ عُجِنَتْ بِمَاءِ الْحَيَوَانِ، فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا  
الْخَلَائِقُ، فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ تَكْسِي حُلَّةً مِنْ حُلَلٍ [تَشْتَمِلُ] عَلَي أَلْفِ  
حُلَّةٍ مَكْتُوبٍ [عَلَيْهَا] بِحَطِّ أَحْضَرَ: أَدْخَلُوا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ الْجَنَّةَ عَلَي  
أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ أَكْمَلِ هَيْبَةٍ وَ أَتَمِّ كِرَامَةٍ وَ أَوْفَرَ حَطِّ. فَتَرَفُّ إِلَي الْجَنَّةِ  
كَالْعُرُوسِ حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ.  
رَوَاهُ مُجِيبُ الطَّبْرِيِّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Beti Sayyidah Fatimah Qiyamat Ke Din Is Tarh Uthegi Ki Us Par Izzat Ka Joda Hoga Jise Aabe Hayaat Se Dhoya Gaya Hai. Saari Makhlooq Use Dekh Kar Dang Rah Jaa’engi, Phir Use Jannat Ka Libaas Pehnaaya Jaaega Jis Ka Har Hullah Hazaar Hullo’n Par Mushtamil Hoga, Har Ek Par Sabz Khat Se Likha Hoga: Muhammad Kee Beti Ko Ahsan Soorat, Akmal Haybat, Tamam Tar Karaamat Aur Be-Panaah Izzat-o Ehtraam Se Jannat Men Le Jaao. Pas Aap Ko Dulhan Kee Tarh Saja Kar Sattar Hazaar-70.000 Huron Ke Jhurmut Men Jannat Kee Taraf Laaya Jaaega.”

Is Hadith Ko Muhibb Tabari Ne Riwayat Kiya Hai.

## 7. فَضْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا

﴿Sayyidah Fāṭimah Salāmu Allāhi 'Alayhā Ke  
Jāme' Manāqib Kā Bayān﴾

44/105. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعٍ ۖ الَّذِي تُؤْفِي فِيهِ، فَبَكَتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apne Maraze Wisaal Men Apni Saahabzadi Hazrat Fatimah RadiyAllahu 'Anha Ko Bulaaya Phir Un Se Sargoshi Farmaa'i To Woh Rone Lagi'n. Phir Unhe'n Qarib Bula Kar Sargoshi Kee To Woh Hans Padi'n. Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain: Main Ne Is Baare Men Sayyidah ﷺ Se Poochha To Unhone

AL-HADITH RAQM 44: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1361, RAQM-3511,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1327, RAQM-3427,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1904, RAQM-2450,

NASA'I FI FADA'IL AL-SAHABAH/77, RAQM-296,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/77,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/754, RAQM-1322.

Bataaya: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mere Kaan Men Farmaya Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Isi Maraz Men Wisaal Ho Jaa’ega. Pas Main Rone Lagi, Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sargoshi Karte Huwe Mujhe Bataaya Ki Mere Ahle Bait Men Sab Se Pehle Tum Mere Ba’d Aa’ogi Is Par Main Hans Padi.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

45/106. عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا  
أَزْوَاجَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْوَسِيلَةَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةَ  
عَلَيْهَا السَّلَامَ تَمْشِي، وَلَا وَاللَّهِ، مَا تَخْفِي مَشِيَّتَهَا مِنْ مَشِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْوَسِيلَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

“Hazrat Masrooq RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ummu Al-Mu’minin Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ne Farmaya: Ham Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaje Mutahharaat Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Jam’a Thi’n Aur Koi Ek Bhi Ham

AL-HADITH RAQM 45: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/2317,  
RAQM-5928,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1905, RAQM-2450,

NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH/77, RAQM-263,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/762, RAQM-  
1342,]

TAYALISI FI AL-MUSNAD,/196, RAQM-1373,

IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/247,

DULABI FI ADH-DHURRIYAT-UT-TAHIRAH, 01/101, 102, RAQM-  
188.

Men Se Ghair Haazir Na Thi, Itne Men Hazrat Fatimat-uz-Zahra RadiyAllahu 'Anha Waha'n Tashrif Le Aa'in, To Allah Kee Qasam Un Ka Chalna Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Chalne Se Zarrah Bhar Mukhtalaf Na Tha."

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai Aur Alfaz Bukhari Ke Hain.

46/107. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مَشِيَّتَهَا مَشِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي. فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. الْحَدِيثُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ.

"Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Tamam Azwaaj Jam'a Thi'n Aur Koi Bhi Ghair Haazir Nahin Thi. Itne Men Hazrat Fatimah RadiyAllahu 'Anha Aa'in Jin Kee Chaal RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Chalne Ke Mushaabih Thi. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Marhaba (Khush Aamadid) Meri Beti! Phir Unhien Apni Daa'in Ya Baa'in Jaanib Bitha Liya."

Ise Imam Muslim, Ibn Majah Aur Nasa'i Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 46: AKHRAJAHU MULIM FI AS-SAHIH, 04/1905, 1906,

RAQM-2450,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/518, RAQM-I620,

NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 04/25I, RAQM-7078,

05/96, I46, RAQM-8368, 8516, 8517,

NASA'I FI FADA'IL AL-SAHABAH/77, RAQM-263,

NASA'I FI KITAB-UL-WAFAH, 01/20, RAQM-02.

47/108. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا  
وَدَلًا وَ هَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِيَامِهَا وَ قُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ  
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

“Ummu Al-Mu’minin Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Saahib-Zaadi Sayyidah Fatimah سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا Se Badh Kar Kisi Ko Aadaat Wa Atwaar, Sirat-o Kirdaar Aur Nishist-o Barkhaast Men Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Mushaabahat Rakhne Waala Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 47: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/700,  
RAQM-3872,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/355, RAQM-5217,

NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH/78, RAQM-264,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/303, RAQM-7715,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/96,

IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/248,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/06, 07.



48/109. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جَلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

“Ummu Al-Mu'minin Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain Ki Main Ne Andaaze Guftugu Men Hazrat Fatimat-uz-Zahra RadiyAllahu 'Anha Se Badh Kar Kisi Ko Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Is Qadr Mushaabahat Rakhne Waala Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne “Al-Adab-ul-Mufrad” Men Aur Imam Nasa'i Ne Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai.

49/110. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: قَدْ نَعَيْتُ إِلَيَّ نَفْسِي، فَبَكَتْ، فَقَالَ:

---

AL-HADITH RAQM 48: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AL-ADAB-UL-MUFRAD, 01/326, 377, RAQM-947, 971,

NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/391, RAQM-9236,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 15/403, RAQM-6953,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/167, 174, RAQM-4732, 4753,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 04/242, RAQM-40890,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/101,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 01/08, RAQM-06.

AL-HADITH RAQM 49: AKHRAJAHU DARAMI FI AS-SUNAN, 01/08, RAQM-06,

IBN KATHIR FI TAFSIR-UL-QR'AN AL-AZIM, 04/561.

لَا تَبْكِي، فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لِأَحَقِّ بِي، فَضَحِكْتُ، فَرَأَاهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةَ، رَأَيْنَاكِ بَكَيتِ، ثُمَّ ضَحِكْتِ قَالَتْ: إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَدْ نُعِيَ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيتُ، فَقَالَ لِي: لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لِأَحَقِّ بِي فَضَحِكْتُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Jab Aayat: “Jab Allah Kee Madad Aur Fat’h Aa Pahonchi.” Naazil Hu’i To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Fatimah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا Ko Bulaaya Aur Farmaya: Meri Wafat Kee Khabar Aa Ga’i Hai, Woh Ro Padi’n. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mat Ro, Be-Shak Tum Mere Ghar Waalo’n Men Sab Se Pehle Mujh Se Milogi To Woh Hans Padi’n, Is Baat Ko Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Baaz Azwaaj Ne Bhi Dekha. Unhone Kaha: Fatimah! (Kya Maajara Hai), Ham Ne Aap Ko Pehle Rote Aur Phir Hanste Huwe Dekha Hai? Aap Ne Jawaab Diya: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Bataaya: Meri Wafaat Ka Waqt Aa Pahoncha Hai. (Is Par) Main Ro Padi, Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mat Ro, Tum Mere Khaandaan Men Sab Se Pehle Mujhe Milogi, To Main Hans Padi.”

Is Hadith Ko Imam Darimi Ne Riwayat Kiya Hai.

50/111. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ  
اللَّهُمَّ، إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

## رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Ke Liye Khusoosi Du’a Farmaa’i: Ae Allah! Main (Apni) Is (Beti) Aur Is Kee Aulaad Ko Shaitaan Mardood Se Teri Panaah Men Deta Hoo’n.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Hibban, Ahmad Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

51/112. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ سَلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Koi Bhi Shakhs Hazrat Hasan Bin Ali Aur Hazrat Fatimat-uz-Zahra’ Se Badh Kar Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Mushaabahat Rakhne Waala Nahin Tha.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

---

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/409, RAQM-1021,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/762, RAQM-1342,

HAYTHAMI FI MAWARID AL-ZAM’AN ILA ZAWA’ID IBN HABBAN, 550, 551, RAQM-2225,

IBN JAWZI FI TADHKIRAT-UL-KHAWASS, 01/277,

MUHIIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI-‘L-QURBA, 01/67.

AL-HADITH RAQM 51: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/164.

52/ 113. عَنْ أُمِّ سَلْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اشْتَكَّتْ فَاطِمَةَ سَلَامٌ اللَّهُ عَلَيْهَا شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ، فَكُنْتُ أَمْرِيضُهَا فَاصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ. قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ لِعِضِّ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهُ، اسْكُبِي لِي غُسْلًا، فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، أَعْطِينِي. ثِيَابِي الْجُدَدَ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعْتُ وَاسْتَبَلْتُ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلْتُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ، فَقُبِضْتُ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ فَأَخْبَرْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Umme Salma RadiyAllahu ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Jab Sayyidah Fatimah Salamullahu ‘Alayha Apni Maraze Maut Men Mubtala Hu’in To Main Un Kee Timaardaari Karti Thi. Bimaari Ke Is Poore

AL-HADITH RAQM 52: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 06/461, RAQM-27656, 27657,

DULABI FI ADH-DHURRIYAT-UT-TAHIRAH, 01/113,

ZAYLA’IY FI NASB-UR-RAYAH TAKHRIJ AHADITH AL-HIDAYAH, 02/250,

MUHIIBB TABARI FI DHAKHA’IR-UL-‘UQBA FI MANAQIBI DHAWI’-L-QURBA, 01/103,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/210,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH, 07/221.

Arse Ke Dauran Jaha'n Tak Main Ne Dekha Ek Sub'h Un Kee Haalat Behtar Thi. Hazrat Ali RadiyAllahu 'Anhu Kisi Kaam Se Baahar Ga'e. Sayyidah Ka'inaat Ne Kaha: Ae Amma'n! Mere Ghusl Ke Liye Paani Laaen. Main Paani Laa'i. Aap Ne Jaha'n Tak Main Ne Dekha Behtarin Ghusl Kiya. Phir Boli'n: Amma'n Ji! Mujhe Naya Libaas De'n. Main Ne Aisa Hee Kiya Aap Qibla Rukh Ho Kar Let Gayin. Haath Rukhsaar Mubaarak Ke Neeche Kar Liya Phir Farmaya: Amma'n Ji: Ab Meri Wafaat Ho Jaa'egi, Main (Ghusl Kar Ke) Paak Ho Chuki Hoo'n, Lehaaza Mujhe Koi Na Khole Pas Usi Jagah Aap Kee Wafaat Ho Ga'i. Hazrat Umme Salma Bayan Karti Hain Ki Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Tashrif Laa'e To Main Ne Unhe'n Saari Baat Bataa'i."

Ise Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

53/114. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ بَنِي أُمَّ عَصْبَةَ يَنْتِمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا ابْنِي فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيَهُمَا وَ عَصْبَتُهُمَا.  
رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

"Hazrat Jaabir RadiyAllahu 'Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Har Maa'n Kee Aulaad Ka Oosbah (Baap) Hota Hai Jis Kee Taraf Woh Mansub Hoti Hai, Siwaa'e Fatimah Ke Beto'n Ke, Ki Main Hee Un Ka Wali Aur Main Hee Un Ka Nasab Hoo'n."

---

AL-HADITH RAQM 53: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/179, RAQM-4770,

SAKHAWI FI ISTIJLABU IRTIQA'-IL-GHURAFI BI-HUBBI AQRIBA'  
AR-RASOOLI ﷺ WA DHAW-ISH-SHARAF, 01/130.

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

54/115. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَ نَسَبِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ وَ الْبَزَّازُ.

“Hazrat Umar Bin Khattab RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Huwe Suna Hai: Mere Nasab Aur Rishte Ke Siwa Qiyamat Ke Din Har Nasab Aur Rishta Munqata’ Ho Jaa’ega.”

Is Hadith Ko Imam Hakim, Ahmad Aur Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 54: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/153, RAQM-4684,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/625, 626, 758, RAQM-1069, 1070, 1333,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 01/397, RAQM-274,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/44, 45, RAQM-2633, 2634,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/376, RAQM-5606,

06/357, RAQM-6609.

55/116. عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا فَاطِمَةَ، وَاللَّهِ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْكَ، وَاللَّهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَبِيكَ صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ.  
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Umar Bin Khattab RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Woh RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Saahib-Zaadi Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Ke Haa’n Ga’e Aur Kaha: Ae Fatimah! Khuda Kee Qasam! Main Ne Aap Ke Siwa Kisi Shakhs Ko Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Nazdik Mahboobtar Nahin Dekha Aur Khuda Kee Qasam! Logo’n Men Se Mujhe Bhi Aap Ke Waalide Muhtaram Ke Ba’d Koi Aap Se Ziyaada Mahboob Nahin.”

Ise Imam Hakim Aur Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

56/117. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ فَاطِمَةَ  
حَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا اللَّهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَيَّ النَّارِ.

---

AL-HADITH RAQM 55: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/168, RAQM-4736,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/432, RAQM-37045,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 01/364,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/360, RAQM-2952,

KHATIB AL-BAGHDADI FI TARIKH BAGHDAD, 04/401.

AL-HADITH RAQM 56: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/407, RAQM-1018,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 05/223, RAQM-1829,

## رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَزَّازُ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Fatimah Ne Apni Ismat-o Paak Daamani Kee Aisi Hifaazat Kee Hai Ki Allah Ta’ala Ne Use Aur Us Kee Aulaad Ko Aag Par Haraam Farma Diya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani, Bazzar Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

57/118. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ مُعَذِّبِكَ وَلَا وُلْدِكَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Se Farmaya: Allah Ta’ala Tumhe’n Aur Tumhari Aulaad Ko Aag Ka Azaab Nahin Dega.”

---

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/165, RAQM-4726,  
ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-  
ASFIYA’, 04/188,

SAKHAWI FI ISTIJLABU IRTIQA’-IL-GHURAFI BI-HUBBI AQRIBA’  
AR-RASOOLI ﷺ WA DHAW-ISH-SHARAF, 01/II5, II6.

AL-HADITH RAQM 57: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-  
KABIR, II/263, RAQM-II685,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/202,

SAKHAWI FI ISTIJLABU IRTIQA’-IL-GHURAFI BI-HUBBI AQRIBA’  
AR-RASOOLI ﷺ WA DHAW-ISH-SHARAF, 01/II7.



Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya.

58/119. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غَيْرَ أَبِيهَا.  
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain Ki Main Ne Fatimah RadiyAllahu 'Anha Se Afzal Un Ke Baaba Ke Ilaawah Koi Shakhs Nahin Paaya.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

59/120. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْتِ أَوْلُ أَهْلِي لِحَوْقًا بِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْفَضَائِلِ وَأَبُونُعَيْمٍ.

“Hazrat Abd-ul-Allab Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Se Marwi Hai Ki RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu 'Anha Se Farmaya: Mere Ghar Waalo'n Men Se Sab Se Pehle Too Mujh Se Milegi.”

---

AL-HADITH RAQM 58: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 03/137, RAQM-272I,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/20I,

SHAWKANI FI DARR-US-SAHABAH FI MANAQIB-IL-QARABAH WA'S-SAHABAH, 01/277, RAQM-24.

AL-HADITH RAQM 59: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/764, RAQM-I345,

ABOO NU'AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA' WA TABAQAT-UL-ASFIYA', 02/40.

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne “Faza'il-us-Sahabah” Men  
Imam Aboo Nu'aym Ne Riwayat Kiya Hai.

60/121. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا  
قَطُّ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرِ أُبَيِّهَا. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

“Hazrat Amr Bin Dinar Rahmatullahi Alayh Se Riwayat Hai  
Ki Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ne Farmaya: Fatimah  
RadiyAllahu 'Anha Ke Baaba SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-  
Sallam Ke Siwa Main Ne Fatimah Se Ziyaada Sachcha Kaa'enaat Men  
Koi Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Ne Riwayat Kiya Hai.

61/122. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا  
سُمِّيَتْ بِنْتِي فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ.  
رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Jaabir Bin Abd Allah RadiyAllahu 'Anhuma Se  
Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-  
Sallam Ne Farmaya: Meri Beti Ka Naam Fatimah Is Liye Rakha Gaya

---

AL-HADITH RAQM 60: AKHRAJAHU ABOO NU'AYM FI HILYAT-UL-  
AWLIYA' WA TABAQAT-UL-ASFIYA', 02/41, 42.

AL-HADITH RAQM 61: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-  
FIRDAWS, 01/346, RAQM-1385,

HINDI FI KANZ-UL-'UMMAL, 12/109, RAQM-34227,

SAKHAWI FI ISTIJLABU IRTIQA'-IL-GHURAFI BI-HUBBI AQRIBA'  
AR-RASOOLI ﷺ WA DHAW-ISH-SHARAF, 01/86.

Hai Ki Allah Ta'ala Ne Use Aur Us Se Mahabbat Rakhne Waalo'n Ko Dozakh Se Juda Kar Diya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

62/123. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله وسلامه عليه: أَنَا مِيزَانُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ كِفْتَاهُ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خِيُوطُهُ، وَفَاطِمَةُ عَلَاقَتُهُ وَالْأُيَمَّةُ مِنْ بَعْدِي عُمُودُهُ يُوزَنُ بِهِ أَعْمَالُ الْمُحِبِّينَ لَنَا وَالْمُبْغِضِينَ لَنَا. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Ilm Ka Taraazu Hoo'n, Ali Us Ka Palada Hai, Hasan Aur Husayn Us Kee Rassiya'n Hain, Fatimah Us Ka Dastah Hai Aur Mere Ba'd A'imma'e At'haar (Us Taraazu Kee) Umoodi Salaakh Hain, Jis Ke Zari'e Hamaare Saath Mahabbat Karne Waalo'n Aur Bughz Rakhne Waalo'n Ke A'amaal Tole Jaa'enge.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

al-Bābu al-Thālithu:

مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿Ḥazrat ‘Alī Bin Abī Ṭālib Raḍiya  
Allāhu ‘Anhumā Ke Manāqib﴾

1. فَضَّلُ فِي كَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ

صَلَّى

﴿Ḥazrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Kī Qubūle

Islām Aur Namāz Paṛhne Meñ Awwalīyat Kā

Bayān﴾

1/124. عَنْ أَبِي حَمَزَةَ: رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ

يَقُولُ: أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Ek Anasri Shakhs Aboo Hamzah Se Riwayat Hai Ki Main Ne Hazrat Zayd Bin Arqam Ko RadiyAllahu ‘Anhu Ko Farmate Huwe Suna Ki Sab Se Pehle Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Imaan Laa’e.”

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/642,

RAQM-3735,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/367,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/447, RAQM-4663,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/371, RAQM-32106,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/406, RAQM-12151,

22/452, RAQM-II02,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,

09/102.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Ahmad Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Haakim Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

2/125. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Peer Ke Din Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bi’sat Hu’i Aur Mangal Ke Din Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Namaz Padhi.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

3/126. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيٌّ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/640, RAQM-3728,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/121, RAQM-4587, MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI’ AS-SAGHIR, 04/355.

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/642, RAQM-3734.

عَلِيِّ وَهُوَ غُلَامٌ ابْنُ ثَمَانَ سِنِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ  
خَدِيجَةَ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Woh Farmate Hain Sab Se Pehle Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Namaz Padhi.”

“Ise Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Hai Ki Is Ke Baare Men Ahle Ilm Ka Ikhtilaaf Hai. Baa’z Ne Kaha: Sab Se Pehle Aboo Bakr Sirddiq RadiyAllahu ‘Anhu Islaam Laa’e Aur Baa’z Ne Kaha: Sab Se Pehle Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Islaam Laa’e Jab Ki Baa’z Muhaddithin Ka Kehna Hai Ki Mardo’n Men Sab Se Pehle Islaam Laane Waale Hazrat Aboo Bakr Siddiq RadiyAllahu ‘Anhu Hain Aur Bachchon Men Sab Se Pehle Islam Laane Waale Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Hain Kyun Ki Woh Aath Baras Kee Umr Men Islaam Laa’e Aur Aurato’n Men Sab Se Pehle Musarraaf Ba-Islam Hone Waali Hazrat Khadijah Al-Kubra RadiyAllahu ‘Anha Hain.”

4/127. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: قَالَ: وَ  
كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةَ.

---

AL-HADITH RAQM 4: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
01/330, RAQM-3062,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 02/603,

IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 03/21,

## رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

“Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu ‘Anhu Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Ek Taweel Hadith Men Riwayat Karte Hain Ki Unhone Farmaya: Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ke Baa’d Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Logo’n Men Sab Se Pehle Islam Laa’e.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Ibn Abi ‘Asim Ne Riwayat Kiya Hai.

5/128. عَنْ حَبَّةِ الْعُرَيْنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ضَحِكَ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ، لَمْ أَرُهُ ضَحِكَ ضِحْكًَا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ نَحْنُ نُصَلِّي بِبَيْتِنِ نَخْلَةَ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعَانِ يَا بَنَ أَحِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ: مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ بَأْسٌ أَوْ بِالَّذِي تَقُولَانِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ وَاللَّهِ لَا تَعْلُونِي سِنِّي أَبَدًا! وَضَحِكَ تَعَجُّبًا لِقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا

---

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/119.

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
01/99, RAQM-776,

TAYALISI FI AL-MUSNAD, 01/36, RAQM-I88,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/102.



أَعْتَرَفَ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدَكَ قَبْلِي، غَيْرَ نَبِيِّكَ ثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Habbah Urani RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Mimbar Par Hanste Huwe Dekha Aur Main Ne Kabhi Bhi Aap Ko RadiyAllahu ‘Anhu Ko Is Se Ziyaada Hanste Huwe Nahin Dekha. Yaha’n Tak Ki Aap RadiyAllahu ‘Anhu Ke Daant Nazar Aane Lage. Phir Aap KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Mujhe Apne Waalid Aboo Talib Ka Qaul Yaad Aa Gaya Tha. Ek Din Woh Hamaare Paas Aa’e Jab Ki Main Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Tha Aur Ham Waadi’e Nakhlah Men Namaz Ada Kar Rahe The, Pas Unhone Kaha: Ae Mere Bhatije! Aap Kya Kar Rahe Hain? Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Aap Ko Islam Kee Da’wat Dee To Unhone Kaha: Jo Kuchh Aap Kar Rahe Hai Hain Ya Keh Rahe Hain Us Men Koi Harj Nahin Lekin Aap Kabhi Bhi (Tajurbe Men) Meri Umr Se Ziyaada Nahin Ho Sakte. Pas Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Apne Waalid Kee Is Baat Par Hans Deeye Phir Farmaya: Ae Allah! Main Nahin Jaanta Ki Mujh Se Pehle Is Ummat Ke Kisi Aur Fard Ne Teri Ibaadat Kee Ho Siwaa’e Tere Nabi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke, Yeh Teen-03 Martaba Dohraaya Phir Farmaya: Tahqiq Main Ne Aammat-un-Naas Ke Namaz Padhne Se Saat-07 Saal Pehle Namaz Ada Kee.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

6/129. عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرُودًا عَلَي نَبِيِّهَا ﷺ أَوْلُهَا  
 إِسْلَامًا، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Woh Bayan Karte Hain Ki Ummat Men Se Sab Se Pehle Hauze Kawsar Par Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men Haazir Hone Waale Islam Laane Men Sab Se Awwal Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Aur Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 6: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF,  
 07/267, RAQM-35954,  
 TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 06/265, RAQM-6174,  
 SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 01/149, RAQM-179,  
 IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/31,  
 HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
 09/102.

## 2. فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿Hazrat 'Alī Al-Murtaḍá Raḍiya Allāhu 'Anhu Kā  
Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār-Gāh Men  
Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

7/130. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

“Hazrat Sa'd Bin Abi Waqqas RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ghazwa'e Tabook Ke Mauqa' Par Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Ko Madinah Men Chhod Diya, Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Kya Aap Mujhe Aurato'n Aur Bachchon Men Pichhe Chhod Kar Jaa Rahe Hain? Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Tum Is Baat Par Raazi Nahin Ki Mere Saath Tumhaari

AL-HADITH RAQM 7: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 04/I602,

RAQM-4I54,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/187I, RAQM-I870,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/638, RAQM-3724,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 0I/I85, RAQM-I608,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/370, RAQM-6927,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 09/40.

Wohi Nisbat Ho Jo Hazrat Haroon ﷺ Kee Hazrat Moosa ﷺ  
Se Thi AlBatta Mere Baa'd Koi Nabi Nahin Hoga.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai Aur Mazkooarah Alfaaz Imam  
Muslim Ke Hain.

8/131. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ وَ  
قَدْ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِرِهِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَلَّفْتَنِي مَعَ  
النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي  
بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوءَةَ بَعْدِي. وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ:  
لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ:  
فَطَافُوا بِهَا فَقَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأْتِي بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَ دَفَعَ  
الرَّايَةَ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا  
أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ) (آل عمران، 3: 61)، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَ  
فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَلَاءِ أَهْلِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
وَ التِّرْمِذِيُّ.

“Hazrat Sa'd Bin Abi Waqqas RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte  
Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala  
Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Jab Aap SallAllahu 'Alayhi  
Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Baa'z Maghaazi Men Hazrat Ali

KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Pichhe Chhod Diya, Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Ne Mujhe Aurato’n Aur Bachchon Men Pichhe Chhod Diya Hai? To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Farmaya: Kya Tum Is Baat Par Raazi Nahin Ho Ki Tum Mere Liye Aise Ho Jaise Moosa عليه السلام Ke Liye Haroon عليه السلام The, AlBatta Mere Baa’d Koi Nabi Nahin Hoga Aur Ghazwa’e Khaybar Ke Din Men Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Yeh Suna Ki Kal Main Is Shakhs Ko Alam (Jhanda) Doonga Jo Allah Aur Us Ka Rasool ﷺ Us Se Mahabbat Karte Hain, So Ham Sab Is Sa’adat Ke Husool Ke Intezaar Men The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Famaya: Ali Ko Mere Paas Bulaaen, Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Laaya Gaya, Us Waqt Woh Aashobe Chashm Men Muftala The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Kee Aankhon Men Luaabe Dahan Daala Aur Unhe’n Alam (Jhanda) Ata’ Kiya, Allah Ta’ala Ne Un Ke Haath Par Khaybar Fat’h Kar Diya Aur Jab Yeh Aayat Naazil Hu’i: “Aap Farma Dijiye Aa’o Ham Apne Beto’n Ko Bulaae’n Aur Tum Apne Beto’n Ko Bulaao.” To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhum Ajma’in Ko Bulaaya Aur Kaha: Ae Allah! Yeh Mera Kunba Hai.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai.

9/132. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَنِي.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Amar Bin Hind Jamali Kehte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Agar Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Koi Cheez Mangta To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mujhe Ata’ Farmate Aur Agar Khaamosh Rehta To Bhi Pehle Mujhe Hee Dete.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai

10/133. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا اَنْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَنْتَجَاهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/637, RAQM-3722, 3729,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/142, RAQM-8504,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/135, RAQM-4630,

MAQDISI FI AL-AHADITH AL-MUKHTARAH, 02/235, RAQM-614.

AL-HADITH RAQM 10: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/639, RAQM-3726,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH, 02/598, RAQM-1321,

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Jaabir RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ghazwa’e Taa’if Ke Mauqa’ Par Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Bulaaya Aur Un Se Sar-Goshi Kee, Log Kehne Lage Aaj Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apne Chachazaad Bhaa’i Ke Saath Kaafi Der Tak Sar-Goshi Kee. So Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Ne Nahin Kee Balki Allah Ne Khud Un Se Sar-Goshi Kee Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ibn Abi ‘Asim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

11/134. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنَبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: قُلْتُ لِضَرَّارِ بْنِ صُرَدٍ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطِرُّهُ جُنْبًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَالِيٍّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 02/186, RAQM-1756.

AL-HADITH RAQM II: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/639,  
RAQM-3727,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 04/36, RAQM-II97,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 02/3II, RAQM-1042,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/65, RAQM-1318I.

“Hazrat Aboo Sa’id RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ali! Mere Aur Tumhaare Ilaawah Kisi Ke Liye Jaa’iz Nahin Ki Haalate Janabat Men Is Masjid Men Rahe. Imam Ali Bin Mundhir Kehte Hain Ki Main Ne Zaraar Bin Surad Se Is Ka Ma’na Poochha To Unhone Farmaya: Is Se Muraad Masjid Ko BaTaur Raasta Iste’maal Karna Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Bazzar Aur Aboo Ya’la Ne Riwayat Kiya Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

12/135. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، لَا تُمَتِّنِي حَتَّى تَرِيَنِي عَلِيًّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Ummi Atiyyah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Lashkar Bheja Us Men Us Men Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Bhi The Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dekha Ki Aap

---

AL-HADITH RAQM 12: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/643,

RAQM-3737,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 25/68, RAQM-168,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/48, RAQM-2432,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/609, RAQM-1039.



SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Haath Utha Kar Du'a Kar Rahe The Ki Ya Allah! Mujhe Us Waqt Tak Maut Na Dena Jab Tak Main Ali Ko (Waapas Ba-Khair-o Aafiyat) Na Dekh Loo'n."

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Tabarani Ne Bayan Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

13/136. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجَنِي، ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مَرًّا، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، تَسْتَحِيهِ الْمَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ، أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Ta'ala Aboo Bakr Par Rahm Farmae'n Us Ne Apni Beti Mere Nikaah Men Dee Aur Mujhe Daar-ul-Hijrah Le Kar Aa'e Aur Bilaal Ko Bhi Unhone Apne Maal Se Azaad Karaaya. Allah Ta'ala Umar Par Rahm Farmae'n Yeh Hamesha Haq Baat Karte Hain Agarcheh Woh Kadwi Ho Isi Liye Woh Is Haal Men Hai Ki Un Ka Koi Dost Nahin. Allah Ta'ala Usman Par Rahm Farmaen.

---

AL-HADITH RAQM 13: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/633,

RAQM-3714,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/134, RAQM-4629,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 06/95, RAQM-5906,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 03/52, RAQM-806,

ABOO YA'LA FI AL-MUSNAD, 01: 418, RAQM-550.

Is Se Firishte Bhi Haya Karte Hain. Allah Ta'ala Ali Par Rahm Farmaen. Ya Allah! Yeh Jaha'n Kahin Bhi Ho Haq Us Ke Saath Rahe.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Aur Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

14/137. عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ.  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Hubshi Bin Junadah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Woh Kehte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ali RadiyAllahu ‘Anhu Mujh Se Hai Aur Main Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Hoo’n Aur Meri Taraf Se (Ahd-o Paimaan Men) Mere Aur Ali RadiyAllahu ‘Anhu Ke Siwa Koi Doosra (Zimma Daari) Ada Nahin Kar Sakta.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Ibn Majah Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Kehte Hain Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 14: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/636,

RAQM-3719,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/44, RAQM-II9,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/165,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/366, RAQM-32071,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 04/16, RAQM-3511,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 03/183, RAQM-1514.

15/138. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيًّا تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ansaar-o Muhaajirin Ke Darmiyaan Ukhuwwat Qaa’im Kee To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Rote Huwe Aa’e Aur Arz Kiya Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sahaba’e Kiram Men Bhaa’i-Chaarah Qaa’im Farmaya Lekin Mujhe Kisi Ka Bhaa’i Nahin Banaya. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya: Tum Dunya Wa Aakhirat Men Mere Bhaa’i Ho.”

Ise Imam Tirmidhi Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

---

AL-HADITH RAQM 15: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/636,  
RAQM-3720,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/15, RAQM-4288.

16/139. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اثْنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَا كُلُّ مَعِيَ هَذَا الطَّيْرُ، فَجَاءَ عَلَيَّ فَأَكَلَ مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Martaba Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Ek Parande Ka Gosht Tha, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Du’a Kee: Ya Allah! Apni Makhlook Men Se Mahboob-Tareen Shakhs Mere Paas Bhej Taa Ki Woh Mere Saath Is Parande Ka Gosht Khaa’e. Chunaanche Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aa’e Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Woh Gosht Tanaawul Kiya.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

17/140. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.  
وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

AL-HADITH RAQM 16: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/636, RAQM-3721,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 09/146, RAQM-9372, IBN HAYYAN FI TABAQAT-UL-MUHADDITHIN BI-ASBAHAN, 03/454.

AL-HADITH RAQM 17: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/698, RAQM-3868,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03: 168, RAQM-4735,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 08/130, RAQM-7258.

“Hazrat Buraydah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Aurato’n Men Sab Se Ziyaada Mahboob Apni Saahib-Zaadi Hazrat Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Thi’n Aur Mardo’n Men Se Sab Se Ziyaada Mahboob Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu The.”

Is Hadith Ko Tirmidhi Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

18/141. عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلِيٍّ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ، فَفِيلَ: مِنَ الرَّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Jumay’ Bin Umayr Tamimi RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Apni Khaala Ke Saath Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Kee Khidmat Men Haazir Huwa Phir Main Ne Un Se Poochha: Logo’n Main Kaun Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Sab Se Ziyaada Mahboob Tha? Unhone Farmaya: Hazrat Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Phir Arz Kiya Gaya Aur Mardo’n Men Se Kaun Sab Se Zyadah Mahboob Tha? Farmaya: Us Ka Khaawand Agarcheh Mujhe Un Ka Ziyaada Roze Rakhna Aur Ziyaada Qiyaam Kaarna Ma’loom Nahin.”

---

AL-HADITH RAQM I8: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/701,  
RAQM-3874,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/171.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

19/142. عَنْ حَنْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Hanash RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Ne Hazrat Ali KaramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Do-02 Mendho’n Kee Qurbani Karte Huwe Dekha To Main Ne Un Se Poochha Yeh Kya Hai? Unhone Jawab Diya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Wasiyyat Farmaa’i Hai Ki Main Un Kee Taraf Se Bhi Qurbaani Karoo’n Lehaaza Main Un Kee Taraf Se Qurbaani Karta Hoo’n.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

20/143. عَنِ ابْنِ نَجِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ: مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّحْتُ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/94,

RAQM-2790,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/150, RAQM-1285.

AL-HADITH RAQM 20: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN, 03/12,

RAQM-1212,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1222, RAQM-3708,

“Hazrat Abd Allah Bin Nujayy RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Ki Main Din-Raat Men Do-02 Daf’a Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Haazir Hota. Jab Main Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Men Raat Ke Waqt Haazir Hota (Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Namaz Ada Farma Rahe Hote) To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mujheljaazat Inaayat Farmane Ke Liye Khaanste.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

21/144. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي أَحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلَيَّ لِأَقْرَبِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: عُذْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بَعْدَ غَدَاةٍ يَقُولُ: جَاءَ عَلَيَّ مِرَارًا. قَالَتْ: وَأَظُنُّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ. قَالَتْ فَبَجَاءَ بَعْدَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَيَّ الْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلَيَّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ،

---

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 01/360, RAQM-II36,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 05/242, RAQM-25676.

AL-HADITH RAQM 2I: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/300, RAQM-26607,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/149, RAQM-4671,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/II2.

ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا.  
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Us Zaat Kee Qasam Jis Ka Main Halaf Uthaati Hoo’n Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Logo’n Men Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Ahd Ke I’tebaar Se Sab Se Ziyaada Qarib The. Woh Bayan Karti Hain Ki Ham Ne Aae Roz Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Iyaadat Kee, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmate Ki Ali (Meri Iyaadat Ke Liye) Bohat Martaba Aaya Hai. Aap Bayan Karti Hain Ki Mera Khayaal Hai Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Kisi Zaroori Kaam Se Bheja Tha. Us Ke Baa’d Jab Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Tashrif Laa’e To Main Ne Samjha Unhe’n Shaayad Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Koi Kaam Hoga So Ham Baahar Aa Ga’e Aur Darwaaze Ke Qarib Baith Ga’e Aur Men Un Sab Se Ziyaada Darwaaze Ke Qarib Thi Pas Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jhuk Ga’e Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se SarGoshi Karne Lage Phir Us Din Ke Baa’d Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Wisaal Farma Ga’e Pas Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Sab Logo’n Se Ziyaada Ahd Ke I’tebaar Se Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Qarib The.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.



22/145. عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ جَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ بِنُ حَارِثَةَ. فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ زَيْدٌ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَسْأَلَهُ. فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَاءُوا يَسْتَأْذِنُونَهُ فَقَالَ: اخْرُجْ فَانظُرْ مَنْ هُوَ لَائِي فَقُلْتُ: هَذَا جَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ مَا أَقُولُ: أَبِي، قَالَ: انْذَنْ لَهُمْ وَدَخَلُوا فَقَالُوا: مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ قَالُوا: نَسْأَلُكَ عَنِ الرَّجَالِ. قَالَ أَمَا أَنْتَ، يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهَ خُلُقَكَ خُلُقِي وَأَشْبَهَ خُلُقِي خُلُقَكَ، وَأَنْتَ مِنِّي وَشَجَرَتِي. وَأَمَا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فَحَتَّتِي وَأَبُو وَلَدِي، وَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنِّي وَأَمَا أَنْتَ يَا زَيْدُ، فَمَوْلَايَ، وَمِنِّي وَإِلَيَّ، وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Usaamah RadiyahAllahu ‘Anhu Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Ja’far Aur Hazrat Ali Aur Hazrat Zayd Bin

AL-HADITH RAQM 22: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/204, RAQM-21825,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/239, RAQM-4957,

MAQDISI FI AL-AHADITH AL-MUKHTARAH, 04/151, RAQM-1369,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/274.

Haarithah RadiyAllahu ‘Anhum Ek Din Ikatthe Huwe To Hazrat Ja’far RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya Ki Main Tum Sab Se Ziyaada Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Mahboob Hoo’n Aur Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya Ki Main Tumm Sab Se Ziyaada Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Mahboob Hoo’n Aur Hazrat Zayd RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya Ki Main Tum Sab Se Ziyaada Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Pyaara Hoo’n Phir Unhone Kaha Chalo Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Khidmate Aqdas Men Chalte Hain Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Puchhte Hain Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Sab Se Ziyaada Pyaara Kaun Hai? Usaamah Bin Zayd Kehte Hain Pas Woh Teenon Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Ijaazat Talab Karne Ke Liye Haazir Huwe To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Dekho Yeh Kaun Hai? Main Ne Arz Kiya: Ja’far Ali Aur Zayd Bin Haarithah Hain. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Un Ko Ijaazat Do Phir Woh Daakhil Huwe Aur Kehne Lage: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Sab Ziyaada Mahboob Kaun Hai? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Fatimah, Unhone Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Ham Ne Mardo’n Ke Baare Arz Kiya Hai To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ja’far! Tumhari Khilqat Meri Khilqat Se Mushaabih Hai Aur Mere Khulq Tumhaare Khulq Se Mushaabih Hain Aur Too Mujh Se Aur Mere Shajarah Nasab Se Hai, Ae Ali! Too Mera Daamaad Aur Mere Do Beto’n Ka Baap Hai Aur Main Tujh Se Hoo’n Aur Too Mujh Se Hai Aur Ae Zayd! Too Mera Ghulaam Aur Mujh Se Aur Meri Taraf Se Hai Aur Tamam Qaum Se Too Mujhe Pasandidah Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.  
Imam Hakim Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

23/146. عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فَلَانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ. فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُ، قَالَ: لَا يَذْهَبُ بِهَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنِّي وَ أَنَا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu ‘Anhu Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Ek Taweel Hadith Men Riwayat Karte Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kisi Ko Soorah Tawbah De Kar Bheja Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Us Ke Pichhe Bheja Pas Unhone Woh Soorah Us Se Le Lee. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Is Soorah Ko Siwaa’e Us Aadami Ke Jo Mujh Men Se Hai Aur Main Us Se Hoo’n Koi Aur Nahin Le Jaa Sakta.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

24/147. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَلِيًّا النَّاسُ. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا خَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَشْكُوا عَلِيًّا، فَوَاللَّهِ، إِنَّهُ لَأَخْشَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

---

AL-HADITH RAQM 23: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/330, RAQM-3062.

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/86, RAQM-II835,

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Logo’n Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Baare Men Koi Shikaayat Kee. To Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hamaare Darmiyaan Khade Huwe Aur Khutba Irshaad Farmaya. Pas Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Huwe Suna: Ae Logo! Ali Kee Shikaayat Na Karo, Allah Kee Qasam Woh Allah Kee Zaat Men Yaa Allah Ke Raaste Men Bohat Sakht Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Aur Hakim Ne Riayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Kaha Yeh Hadith Sahih-ul-Isnaad Hai.

25/148. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِئِ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يُكَلِّمَهُ إِلَّا عَلَيَّ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Be-Shak Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi

---

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/144, RAQM-4654,  
 IBN HISHAM FI AS-SIRAT-UN-NABAWIYYAH, 06/08.  
 AL-HADITH RAQM 25: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-  
 AWSAT, 04/318, RAQM-4314,  
 HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/141, RAQM-4647,  
 HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
 09/II6.

Wa-Sallam Jab Naaraazgi Ke Aalam Men Hote To Ham Men Se Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Siwaa’e Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Kisi Ko Kalaam Karne Kee Jur’at Na Hoti Thi.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnaad Hai.

26/149. عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا مَبْعُوثًا فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِبْرِيلُ عَنْكَ رَاضُونَ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Rafi’ RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Ek Jagah Bheja, Jab Woh Waapas Tashrif Laa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Se Farmaya: Allah Ta’ala, Us Ka Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Jibra’il Tum Se Raazi Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 26: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/319, RAQM-946,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/131.

### 3. فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

﴿Hazrat ‘Alī Radiya Allāhu ‘Anhu Kā Ahle Bait  
Men Se Hone Kā Bayān﴾

27/150. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ

تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ) (آل عمران، 30 : 61) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَ لِأَهْلِ أَهْلِي.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Aayate Mubaahalal: “Aap Farma De’n Aa’o Ham Apne Beto’n Ko Bulaate Hain Aur Tum Apne Beto’n Ko Bulaao.” Naazil Hu’i To Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn ‘Alayhim-us-Salam Ko Bulaaya, Phir Farmaya: Ya Allah! Yeh Mere Ahle Bait Hain.”

AL-HADITH RAQM 27: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIIH, 04/1871,

RAQM-2404,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/225, RAQM-2999,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/638, RAQM-3724,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/107, RAQM-8399,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/163, RAQM-4719,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/63, RAQM-13169, 13170.

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Farmate Hain Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

28/151. عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم غَدَاةً وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ، مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ رضي الله عنه فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ رضي الله عنه فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Safiyyah Bint Shaybah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sub’h Ke Waqt Is Haal Men Baahar Tashrif Laa’e Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Chaadar Odh Rakhi Thi Jis Par Siyaah Oon Se Kajaawon Ke Naqsh Bane Huwe The. Hazrat Hasan Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Us Chaadar Men Daakhil Farma Liya, Phir

AL-HADITH RAQM 28: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1883, RAQM-2424,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/370, RAQM-36102,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/672, RAQM-II49,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/159, RAQM-4707,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/149,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 03/678, RAQM-1271.

Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhu Aa’e Aur Un Ke Saath Chaadar Men Daakhil Ho Ga’e, Phir Saiyyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Aa’in To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Chaadar Men Daakhil Farma Liya, Phir Hazrat Ali KarramAllahu Waj’hah-ul-Karim Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Chaadar Men Daakhil Farma Liya. Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Yeh Aayate Mubaraka Padhi: Ae Ahle Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh) Kee Aaludagi Door Kar De Aur Tumhe’n Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

29/152. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَيَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ، يَقُولُ: الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/352, RAQM-3206,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/259, 285,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/761, RAQM-1340, 1341,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/172, RAQM-4748,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/388, RAQM-32272,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/360, RAQM-2953,

ABD BIN HUMAYD FI AL-MUSNAD, 01/367, RAQM-12223.

---



وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Chheh-06 Maah Tak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Yeh Ma’mool Raha Ki Jab Namaze Fazr Ke Liye Nikle To Hazrat Fatimah Salamu Allahi ‘Alayha Ke Darwaazah Ke Paas Se Guzarte Huwe Farmate: Ae Ahle Bait! Namaz Qaa’im Karo (Aur Phir Yeh Aayate Mubaraka Padhte: ) “Ae Ahle Bait! Allah Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Door Kar De Aur Tum Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Niz Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

30/153. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ رضي الله عنه: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رضي الله عنهم فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَ عَلِيًّا رضي الله عنه خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ:

---

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/351, RAQM-3205,  
05/663, RAQM-3787,  
AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/292,  
AHMAD BIN HANBAL FI FADA'IL-US-SAHABAH, 02/587, RAQM-994,  
HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHHAYN, 02/451, RAQM-3558,  
03/158, RAQM-4705,  
TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 03/54, RAQM-2668.

اللَّهُمَّ، هُوَ لَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

“Parwarda’e Nabi Hazrat Umar Bin Abi Salamah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu ‘Anha Ke Ghar Men Yeh Ayat Mubarak “Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaloodagi Door Kar De Aur Tum Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De” Naazil Hu’i. To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn RadiyAllahu ‘Anhum Ko Bulaaya Aur Ek Chaadar Men Dhaanp Liya. Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Kamli Men Dhaanp Liya, Phir Farmaya: Ilaahil Yeh Meri Ahle Bait Hain, In Se Har Aaloodagi Ko Door Kar De Aur Inhe’n Khoob Paak-o Saaf Farma De.’

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

31/154. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)، قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسَةِ: فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ عَلِيٍّ، وَ فَاطِمَةَ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهم.

## رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ حَيَّانَ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Ne Farmane Khudawandi: “Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaloodagi Door Kar De.” Ke Baare Men Kaha Hai Ki Yeh Aayat Mubarak Panjtan Ke Haq Men Naazil Hu'i. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam, Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Hazrat Husayn RadiyAllahu 'Anhum Ke Haq Men.”

Is Hadith Ko Tabarani Ne Aur Ibn Abi Hayyan Ne Riwayat Kiya Hai.

32/155. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قَرَابَتِكَ هُوَ لَاءِ الَّذِينَ وَجِبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Se Marwi Hai Ki Jab Yeh Aayat Naazil Hu'i: Ae Mahboob! Farma Dijiye Ki Main Tum Se Sirf Apni Qaraabat Ke Saath Mahabbat Ka Sawaal Karta Hoo'n.” To Sahaba'e Kiram Ridwanu Allahi Ta'ala 'Alayhim Ajma'in

IBN HAYYAN FI TABAQAT-UL-MUHADDITHIN BI-ASBAHAN,  
03/384,

KHATIB AL-BAGHDADI FI TARIKH BAGHDAD, 10/278.

AL-HADITH RAQM 32: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 03/47, RAQM-264I,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID,  
09/I68.

Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Ke Qaraabat Waale Kaun Hai Jin Kee Mahabbat Ham Par Waajib Ho Ga'i Hai? Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ali, Fatimah, Aur Un Ke Dono'n Bete (Hasan Aur Husayn)."

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

33/156. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْعَقِدُ قَدَمًا عَبْدٌ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أُبْلَاهُ، وَعُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مِنْكَبِ عَلَيٍّ.  
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Aboo Barzah RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aadami Ke Dono'n Qadam Us Waqt Tak Agle Jaha'n Men Nahin Padte Jab Tak Ki Us Se Chaar-04 Chizo'n Ke Baare Sawaal Na Kar Liya Jaa'e, Us Ke Jism Ke Baare Men Ki Us Ne Use Kis Tarh Ke Aamaal Men Bosidah Kiya? Aur Us Kee Umr Ke Baare Men Ki Kis Haal Men Use Khatm Kiya? Aur Us Ke Maal Ke Baare Men Ki Us Ne Yeh Kaha'n Se Kamaaya Aur Kaha'n Kharch Kiya? Aur Ahle Bait Kee Mahabbat Ke Baare Men? Arz Kiya Gaya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Kee (Ya'ni Ahle Bait Kee) Mahabbat Kee Kya Alaamat Hai? To Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apna Daste Aqdas

AL-HADITH RAQM 33: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 02/348, RAQM-2191,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 10/346.

Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Shaane Par Maara (Ki Yeh Mahabbat Kee Alaamat Hai).”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

## 4. فَضْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ

### مَوْلَاهُ

﴿Farmāne Muṣṭafá ﷺ: Jis Kā Maiñ Mawlā Hūñ

Us Kā Mawlā ‘Alī Hai﴾

34/157. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيْفِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ. أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، (شَكََّ شُعْبَةَ). عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

AL-HADITH RAQM 34: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/633, RAQM-3713,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 05/195, 204, RAQM-5071, 5096,

وقد روي هذا الحديث عن حسي بن جنادة في الكتب الآتية:

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/134, RAQM-4652,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 12/78, RAQM-12593,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH,: 602, RAQM-1359,

HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, II/608, RAQM-32946,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/77, 144,

KHATIB AL-BAGHDADI FI TARIKH BAGHDAD, 12/343,

IBN KATHIR FI AL-BIDAYAH WA AN-NIHAYAH, 05/451,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/108,

وقد روي هذا الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله في الكتب الآتية.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ  
مَيْمُونٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله

“Ḥazrat Shu’bah RadiyAllahu ‘Anhu, Salamah Bin Kuhayl Se Riwayat Karte Hain Ki Main Ne Aboo Tufayl Se Suna Ki Aboo Sariyah.... Ya Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhuma.... Se Marwi Hai (Ḥazrat Shu’bah Ko Raawi Ke Muta’alīq Shak Hai) Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo’n, Us Ka Ali Mawla Hai.”

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH,: 602, RAQM-1355,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/366, RAQM-32072,

: وقد روي هذا الحديث عن ايوب الأنصاري في الكتب الآتية

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH,: 602, RAQM-1354,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 04/173, RAQM-4052,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 01/229, RAQM-348,

وقد روي هذا الحديث عن بريدة في الكتب الآتية:

ABD-UR-RAZZAQ FI AL-MUSANNAF, 11/225, RAQM-20388,

TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 01: 71,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/143,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH,: 601, RAQM-1353,

IBN KATHIR FI AL-BIDAYAH WA AN-NIHAYAH, 05/457,

HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, 11/602, RAQM-32904,

وقد روي هذا الحديث عن مالك بن حويرث في الكتب الآتية:

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 19/252, RAQM-646,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45: 177,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/106.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

Shu'bah Ne Is Hadith Ko Maymoon Aboo Abd Allah Se, Unhone Zayd Bin Arqam Se Aur Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Kiya Hai.

35/158. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: إِنَّ عَلِيًّا مَنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Imran Bin Hasayn RadiyAllahu 'Anhu Ek Taweel Riwayat Men Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Ali Mujh Se Hai Aur Main Us Se Hoo'n Aur Mere Baa'd Woh Har Musalman Ka Wali Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Kaha Hai Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

---

AL-HADITH RAQM 35: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/632, RAQM-3712,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/330, RAQM-3062,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/373, RAQM-6929,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/II9, RAQM-4579,

NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/132, RAQM-8474,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/372, 373, RAQM-3212I,

ABOO YA'LA FI AL-MUSNAD, 01/293, RAQM-355,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 18/128, RAQM-265.



36/159. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرِ خُمٍّ، أَمَرَ بِدُوحَاتٍ، فَقُمْنَ، فَقَالَ: كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَاجَبْتُ. إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِترَتِي، فَانظُرُوا كَيْفَ تُخَلِفُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ، وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Jab Rasool Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hajjat-ul-Wada’ Se Waapas Tashrif Laa’e To Ghadir Khum Par Qiyaam Farmaya. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Saa’ebaan Lagaane Ka Hukm Diya Aur Woh Laga Diye Ga’e Phir Farmaya: “Mujhe Lagta Hai Ki An-Qarib Mujhe (Wisaal) Ka Bulaawa Aane Ko Hai, Jise Main Qubool Kar Lunga. Tahqiq Main Tumhare Darmiyan Do<sup>2</sup> Aham Cheeze’n Chhod Kar Ja Raha Hoo’n, Jo Ek Doosre Se Badh Kar Ahmiyyat Kee Haamil Hain. Ek Allah Kee Kitab Aur Doosri Meri Itrat. Ab Dekhna Yeh Hai Ki Mere Baa’d Tum In Dono’n Ke Saath Kya Sulook Rawa Rakhte Ho Aur Yeh Dono’n Ek

AL-HADITH RAQM 36: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
05/45, I30, RAQM-8I48, 8464,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/109, RAQM-4576,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 05/166, RAQM-4969.

Doosre Se Juda Na Hongi, Yaha'n Tak Ki Hauze (Kawthar) Par Mere Saamne Aa'engi." Phir Farmaya: Be-Shak Allah Mera Mawla Hai Aur Main Har Momin Ka Mawla Hoo'n. Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Kar Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo'n, Us Ka Yeh Wali Hai, Ae Allah! Jo Ise (Ali Ko) Dost Rakhe Use Too Dost Rakh Aur Jo Is Se Adaawat Rakhe Us Se Too Bhi Adaawat Rakh."

Is Hadith Ko Imam Nasa'i Aur Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Faraya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

37/160. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي عَلِيِّ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لِأَنْ يَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِأَعْظَمِينَ الرَّأْيَةَ عَدَا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْتُ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ الشَّاشِيُّ.

"Hazrat Sa'd Bin Abi Waqqas RadiyAllahu 'Anhu Farmate Hain Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta'ala Alayhi Wa Aalihi Ne

---

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU AL-NASA'I FI KHSA'IS AMIR-UL-MU'MININ 'ALI BIN ABI TALIB KARRAMALLAHU TA'ALA WAJ'HAH-UL-KARIM,: 33, 34, 88, RAQM-10, 80,  
SHASHI FI AL-MUSNAD, 01/165, 166, RAQM-106,  
IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/88,  
HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-'UMMAL, 15/163, RAQM-36496.

Hazrat Ali KaramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Teen<sup>3</sup> Khaslate’n Aisi Bataa’i Hain Ki Agar Main Un Men Se Ek Ka Bhi Haamil Hota To Woh Mujhe Surkh Oont Se Ziyaadah Mahboob Hoti. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne (Ek Mauqa’ Par) Irshad Farmaya: Ali Mere Liye Isi Tarh Hain Jaise Haroon ‘Alayh-is-Salam Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Liye The, (Woh Nabi The) Magar Mere Baa’d Koi Nabi Nahin. Aur Farmaya: Main Aaj Us Shakhs Ko Alam Ata Karunga Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Mahabbat Karta Hai Aur Allah Aur Us Ka Rasool Us Se Mahabbat Karte Hain. (Raawi Kehte Hain Ki) Main Ne Huzoor SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko (Is Mouka Par) Yeh Farmate Huwe Bhi Suna: Jis Ka Main Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Imam Shahsi Ne Riwayat Kiya Hai.

و في رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَلِيِّيَ وَ أَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ. رَوَاهُ  
الْهِنْدِيُّ. 1)

Aur Ek Riwayat Men Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aagaah Raho! Be-Shak Allah Mera Wali Hai Aur Main Har Momin Ka Wali Hoo’n, Pas Jis Ka Main Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hisam-ud-Deen Hidni Ne Riwayat Kiya Hai.

38/161. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِأَعْطِينَ الرَّأْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

### رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ.

“Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Huwe Suna: Jis Ka Main Wali Hoo’n Us Ka Ali Wali Hai Aur Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko (Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se)Yeh Farmate Huwe Suna: Tum Mere Liye Isi Tarh Ho Jaise Haaroon ‘Alayh-is-Salam Ko Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Liye The, Magar Mere Baa’d Koi Nabi Nahin, Aur Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko (Ghazwa’e Khaybar Ke Mouka’ Par) Yeh Bhi Farmate Huwe Suna: Main Aaj Us Shakhs Ko Alam Ata Karunga Jo Allah Aur Us Ke Rasool Se Mahabbat Karta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Aur Imam Nasa’i Khasa’is Ali Bin Abi Talib Men Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 38: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/45, RAQM-I2I,

NASA’I FI KHASA’IS AMIR-UL-MOMININ ALI BIN ABI TALIB KARRAMALLAHU TA’ALA WAJ’HAH-UL-KARIM,: 32, 33, RAQM-9I.

39/162. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ  
الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ  
رضي الله عنه، فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلِيَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ:  
أَلَسْتُ أَوْلِيَّ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا  
مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ، وَالِ مَنْ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ، عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Bara’ Bin Aazib RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ham Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Hajj Ada Kiya, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Raaste Men Ek Jagah Qiyaam Farmaya Aur Namaz Bajama’at (Qaa’im Karne) Ka Hukm Diya, Us Ke Ba’d Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Kar Farmaya: Kya Main Momin Kee Jaanon Se Qarib Tar Nahin Hoo’n? Unhone Jawaab Diya: Kyun Nahin! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Main Har Momin Kee Jaan Se Qarib Tar Nahin Hoo’n? Unhone Jawab Diya: Kyoo’n Nahin! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Pas Yeh (Ali) Har Us Ka Wali Hai Jis Ka Main Mawla Hoo’n. Ae Allah! Jo Ise Dost Rakhe Use Too Dost Rakh (Aur) Jo Is Se Adaawat Rakhe Us Se Too Bhi Adaawat Rakh.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

40/163. عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ عَلَيْهَا، فَتَنَقَّصْتُهُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مُؤَلَاهُ فَعَلِيٌّ مُؤَلَاهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Buraydah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Saath Yaman Ke Ghazwah Men Sheerkat Kee Jis Men Mujhe Aap Se Kuchh Shikwa Huwa. Jab Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men Waapas Aaya To Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Zikr Karte Huwe Un Ke Baare Men Tanqis Kee. Main Ne Dekha Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Chehra’e Mubarak Mutaghayyir Ho Gaya Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: “Ae Buraydah! Kya Main Mominin Kee Jaanon Se Qarib Tar Nahin Hoo’n?” To Main Ne Arz Kiya: Kyun Nahin, Ya

---

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBA FI AL-MUSNAD,  
05/347, RAQM-22995,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/130, RAQM-8465,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/110, RAQM-4578,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 12/84, RAQM-12181.

RasoolAllah ﷺ! Us Par Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo'n Us Ka Ali Mawla Hai."

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Hakim Aur Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

41/164. عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ: زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ رضي الله عنه وَأَنَا أَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي حُمِّ، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّاهَا بِهَجِيرٍ، قَالَ: فَخَطَبَنَا وَظَلَّلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ عَلَيَّ شَجَرَةَ سَمْرَةَ مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ، عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Maimoon Aboo Abd Allah Bayan Karte Hain Ki Main Ne Zayd Bin Arqam RadiyAllahu 'Anhu Ko Yeh Kehte Huwe Suna: Ham Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Ek Waadi... Jise Wadi'e Khum Kaha Jaata Tha...Men Utre. Pas Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Namaz Ka Hukm Diya Aur Sakht Garmi Men Jama'at Karwaa'i. Phir Hame'n Khutba Farmaya, Dar-Aa'n-Haale-Ki Huzoor Nabiyye Akram

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/372,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/131,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KBIR, 05/195, RAQM-5068.

SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Sooraj Kee Garmi Se Bachaane Ke Liye Darakht Par Kapda Latka Kar Saaya Kiya Gaya. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: “Kya Tum Nahin Jaante Ya (Is Baat Kee) Gawaahi Nahin Dete Ki Main Har Momin Kee Jaan Se Qarib Tar Hoo’n?” Logo’n Ne Kaha: Kyoo’n Nahin! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Pas Jis Ka Main Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai, Ae Allah! Too Us Se Adaawat Rakh Jo Is Se Adaawat Rakhe Aur Use Dost Rakh Jo Ise Dost Rakhe.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Bayhaqi Ne Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

42/165. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبْرَانِيُّ.

“ (Khud) Hazrat Ali ‘Alayh-is-Salam Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam

---

AL-HADITH RAQM 42: AKHRAJAHU AHMAD BIN FI HANBAL NE AL-MUSNAD, 01/152,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 07/448, RAQM-6878,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/705,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH,: 604 RAQM-1369,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/161, 162, 163,

IBN KATHIR FI AL-BIDAYAH WA AN-NIHAYAH, 04/171,

HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, 13/77, 168, RAQM-32950, 36511,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/107.



Ne Ghadir Khum Ke Din Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

43/166. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهَبٍ، قَالَ: نَشَدَ عَلِيَّ عليه السلام النَّاسَ فَقَامَ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.  
رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Aboo Is’haq Se Marwi Hai, Woh Kehte Hain Ki Main Ne Sa’id Bin Wahab Ko Yeh Kehte Huwe Suna: Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Logo’n Se Qasam Lee Jis Par Paanch-05 Chheh-06 Sahaba Ne Khade Ho Kar Gawaahi Dee Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Tha: Jis Ka Main Mawla Hoo’n Us Ka Ali Mawla Hai.”

AL-HADITH RAQM 43: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/366,

NASA’I FI KHSAS AMIR-UL-MU’MININ ‘ALI BIN ABI TALIB KARRAMALLAHU TA’ALA WAJ’HAH-UL-KARIM, :90, RAQM-83,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/598, 599, RAQM-1021,

MAQDISI FI AL-AHADITH AL-MUKHTARAH, 02/105, RAQM-479,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/131,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/160,

MUHIBB-UD-DEEN TABARI FI AR-RİYAD-UN-NADIRAH, 03/127,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/104.

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

44/167. عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: قَالَ: وَقَالَ لِبَنِي عَمِّهِ أَيُّكُمْ يُوَالِيَنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ قَالَ: وَ عَلَيَّ مَعَهُ جَالِسٌ. فَأَبَوْا فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ: أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ، فَتَرَكْتُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُوَالِيَنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ فَأَبَوْا قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu ‘Anhu Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Ek Taweel Hadith Men Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apni Chacha Ke Baton Se Farmaya: Tum Men Se Kaun Dunya Wa Aakhirat Men Mere Saath Dosti Karega? Raawi Bayan Karte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Us Waqt Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Baithe Huwe The, Sab Ne Inkaar Kar Diya To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Arz Kiya: Main Aap

AL-HADITH RAQM 44: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/330, RAQM-3062,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/143, RAQM-4652,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH, 02/603,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/199.

SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Dunya Wa Aakhirat Men Dosti Karunga, Is Par Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ali Too Dunya Wa Aakhirat Men Mera Dost Hai. Raawi Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Aage Un Men Se Ek Aadami Kee Taraf Badhe Aur Farmaya: Tum Men Se Dunya Wa Aakhirat Men Mere Saath Kaun Dosti Karega? To Us Ne Bhi Inkaar Kar Diya. Raawi Bayan Karte Hain Ki Is Par Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Kaha: Ya RasoolAllah صلى الله عليه وسلم! Main Aap Ke Saath Dunya Wa Aakhirat Men Dosti Karunga To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ali! Too Dunya Wa Aakhirat Men Mera Dost Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmd, Ibn Abi Aasim Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

45/168. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْرًا، وَهُوَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، فَقَالَ: أَلَسْتَ وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا:

---

AL-HADITH RAQM 45: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 04/281,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 12/78, RAQM-12167,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 03/324,

KHATIB AL-BAGHDADI FI TARIKH BAGHDAD, 08/290,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45/176, 177,

IBN KATHIR FI AL-BIDAYAH WA AN-NIHAYAH, 05/464,

RAZI FI AT-TAFSIR-UL-KABIR, 11/139.

بَلِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ: بَخَّ بَخَّ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَ مَوْلَى كُلِّ  
مُسْلِمٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Jis Ne Atthaarah-18 Dhul-Hijjah Ko Rozah Rakha Us Ke Liye Saath-60 Mahino’n Ke Rozo’n Ka Sawaab Likha Jaa’ega, Aur Yeh Ghadir Khum Ka Din Tha Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Haath Pakad Kar Farmaya: Kya Main Mu’minin Ka Wali Nahin Hoo’n? Unhone Ne Arz Kiyaa: Kyoo’n Nahin, Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo’n, Us Ka Ali Mawla Hai. Is Par Hazrat Umar Bin Khattab RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya: Mubarak Ho! Ae Ibn Abi Talib! Aap Mere Aur Har Musalman Ke Mawla Thahre. (Is Mauqa’ Par) Allah Ta’ala Ne Yeh Aayat Naazil Farmaa’i: Aaj Main Ne Tumhare Liye Tumhara Deen Muqammal Kar Diya.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Ibn Abi Shaybah Aur Tabarani Ne Mazkooarah Alfaaz Ke Saath Riwayat Kiya Hai.

46/169. عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُورِقٍ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ  
العَزِيزِ يُعْطِي النَّاسَ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: وَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ

قُرَيْشٍ، قَالَ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالَ: فَسَكَتُ. فَقَالَ: مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ قُلْتُ: مَوْلَى عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ عَلِيٍّ؟ فَسَكَتُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ صَدْرِي وَقَالَ: وَ أَنَا وَاللَّهِ مَوْلَى عَلِيٍّ بِنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَرْجِحُ كَمْ تُعْطِي أَمْثَالَهُ؟ قَالَ: مِائَةٌ أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: سِتِّينَ دِينَارًا لِوَلَايَتِهِ عَلِيٍّ بِنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، ثُمَّ قَالَ: الْحَقُّ بِيَلَدِكَ فَسَيَأْتِيكَ مِثْلُ مَا يَأْتِي نَظْرَاءَكَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

“Hazrat Yazid Bin Umar Bin Mooriq Riwayat Karte Hain Ki Ek Mauqa’ Par Main Shaam Men Tha Jab Hazrat Umar Bin Abd Al-Aziz RadiyAllahu ‘Anhu Logo’n Ko Nawaaz Rahe The. Pas Main Un Ke Paas Aaya, Unhone Mujh Se Poochha Ki Aap Kis Qabile Se Hain? Main Ne Kaha: Quraish Se. Unhone Poochha Ki Quraish Kee Kis (Shaakh) Se? Main Ne Kaha: Bani Hashim Se. Unhone Poochha Ki Bani Hashim Ke Kis (Khandan) Se? Raawi Kehte Hain Ki Main Khaamosh Raha. Unhone (Phir) Poochha Ki Bani Hashim Ke Kis (Khandan) Se? Main Ne Kaha: Mawla Ali (Ke Khandan Se). Unhone Poochha Ki Ali Kaun Hai? Main Khaamosh Raha. Raawi Kehte Hain Ki Unhone Mere Seene Par Haath Rakha Aur Kaha: “Ba-Khuda! Main Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 69/127,

IBN ATHIR FI USD-UL-GHABAH FI MA’REFAT-IS-SAHABAH,  
06/427, 428.

Ghulam Hoo'n." Aur Phir Kaha Ki Mujhe Be Shumaar Logo'n Ne Bayan Kiya Hai Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Huwe Suna: "Jis Ka Main Mawla Hoo'n Us Ka Ali Mawla Hai." Phir Muzaahim Se Poochha Ki Is Qabil Ke Logo'n Ko Kitna De Rahe Ho? To Us Ne Jawaab Diya: Sau-100 Ya Do Sau-200 Dirham. Is Par Unhone Farmaya: Hazrat Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Kee Qaraabat Kee Waj'h Se Unhe'n Pachaas-50 Dinar Ziyaadah Do, Aur Ibn Abi Dawood Ki Riwayat Ke Mutabiq Saath-60 Dinar Esaafi Dene Ki Hidayat Kee, Aur (Un Se Mukhaatib Ho Kar) Farmaya: Aap Apne Shahr Tashrif Le Jaa'en, Aap Ke Paas Aap Ke Qabila Ke Logo'n Ke Baraabar Hissah Pahonch Jaa'enga."

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Ne Riwayat Kiya Hai.

47/170. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتِي مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ، وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اعِنْ مَنْ اعَانَهُ.

AL-HADITH RAQM 47: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 05/192, RAQM-5059,

NASA'I FI KHASA'IS AMIR-UL-MU'MININ 'ALI BIN ABI TALIB KARRAMALLAHU TA'ALA WAJ'HAH-UL-KARIM,: 100, 101, RAQM-96,

IBN KATHIR FI AL-BIDAYAH WA AN-NIHAYAH, 04/I70,

HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-'UMMAL, II/609, RAQM-32946

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/104, 106.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Amar Dhi Murr Aur Zayd Bin Arqam Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ghadir Khum Ke Maqaam Par Khutba Farmaya: Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ka Main Mawla Hoo'n Us Ka Ali Mawla Hai, Ae Allah! Jo Ise Dost Rakhe Too Use Dost Rakh Aur Jo Is Se Adaawat Rakhe Too Us Se Adaawat Rakh, Aur Jo Is Kee Nusrat Kare Us Kee Too Nusrat Farma, Aur Jo Is Kee Iaanat Kare Too Use Iaanat Farma.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

48/171. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَقِصُونَ عَلِيًّا، مَنْ يَنْتَقِصُ عَلِيًّا فَقَدْ تَنَقَّصَنِي، وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، خُلِقَ مِنْ طِينَتِي وَخُلِقْتُ مِنْ طِينَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، ذُرِّيَّةَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنَّهُ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِالصُّحْبَةِ أَمْ لَا بَسَطْتَ يَدَكَ حَتَّى أَبَايَعَكَ عَلِيَّ الْإِسْلَامَ جَدِيدًا؟ قَالَ: فَمَا فَارَقْتَهُ حَتَّى بَايَعْتَهُ عَلِيَّ الْإِسْلَامَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

AL-HADITH RAQM 48: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 06/162, I63, RAQM-6085,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/128.

“Hazrat Ibn Buraydah Apne Waalid Se Ek Taweel Riwayat Men Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Un Logo’n Ko Kya Hoga Jo Ali Kee Shaan Men Gustakhi Karte Hain! (Jaan Lo) Jo Ali Kee Gustaakhi Karta Hai Woh Meri Gustakhi Karta Hai Aur Jo Ali Se Juda Huwa Woh Mujh Se Juda Ho Gaya. Be-Shak Ali Mujh Se Hai Aur Main Ali Se Hoo’n, Us Kee Takhliq Meri Mitti Se Hu’i Hai Aur Meri Takhliq Ibrahim Kee Mitti Se, Aur Main Ibrahim Se Afzal Hoo’n. Ham Men Se Baa’z Baal’z Kee Aulaad Hain, Allah Ta’ala Yeh Saari Baate’n Sun’ne Aur Jaan Ne Waala Hai.....Woh Mere Baa’d Tum Sab Ka Wali Hai. (Buraydah Bayan Karte Hain Ki) Main Ne Kaha: Ya RasoolAllah ﷺ! Kuchh Waqt Inaayat Farmaye’n Aur Apna Haath Badhaaen, Main Tajdide Islam Kee Bai’at Karna Chahta Hoo’n, (Aur) Main Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Juda Na Huwa Yaha’n Tak Ki Main Ne Islam Par (Do Baarah) Bai’at Kar Lee.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

49/172. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْصِي مَنْ أَمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: مَنْ تَوَلَّاهُ فَقَدْ تَوَلَّانِي وَ مَنْ تَوَلَّانِي فَقَدْ تَوَلَّى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَ مَنْ أَحَبَّنِي، وَ مَنْ أَحَبَّنِي

---

AL-HADITH RAQM 49: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/429, RAQM-175I,

IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 45: 18I, 182,

HISAM-UD-DEEN HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, II/6II, RAQM-32958,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/108, 109.



فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَ مَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَ مَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ  
أَبْغَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

“Hazrat Ammar Bin Yaasir RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jo Mujh Par Imaan Laaya Aur Meri Tasdiq Kee Use Main Wilayate Ali Kee Wasiyyat Karta Hoo’n, Jis Ne Use Wali Jaana Us Ne Mujhe Wali Jaana Aur Jis Ne Mujh Wali Jaana Us Ne Allah Ko Wali Jaana, Aur Jis Ne Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Mahabbat Kee Us Ne Mujh Se Mahabbat Kee, Aur Jis Ne Mujh Se Mahabbat Kee Us Ne Allah Se Mahabbat Kee, Aur Jis Ne Ali Se Bughz Rakha Us Ne Mujh Se Bughz Rakha, Aur Jis Ne Mujh Se Bughz Rakha Us Ne Allah Se Bughz Rakha.”

Is Hadith Ko Imam Daylami, Muttaqui Hindi, Ibn Asaskir Ne Riwayat Kiya Hai.

5. فَضْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ

أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

﴿Hubbe ‘Alī Raḍīya Allāhu ‘Anhu Ḥubbe Muṣṭafá  
Hai Aur Buḡhze ‘Alī Raḍīya Allāhu ‘Anhu Buḡhze  
Muṣṭafá ﷺ Hone Kā Bayān﴾

50/173. عَنْ زَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ: وَبَرَأَ النَّسْمَةَ: إِنَّهُ  
لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا  
مُنَافِقٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

“Hazrat Zirr (Bin Hubaysh) RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Qasam Hai Us Zaat Kee Jis Ne Dane Ko Phaada (Aur Us Se Anaaz Aur Nabaataat Ugaa’e) Aur Jis Ne Jaandaaro’n Ko Paida Kiya, Huzoor Nabie Ummi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka

AL-HADITH RAQM 50: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 01/86, RAQM-78,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/367, RAQM-6924,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/47, RAQM-8153,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/365, RAQM-32064,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 01/250, RAQM-291,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 02/182, RAQM-560,

IBN ABI ‘ASIM FI AS-SUNNAH, 02/598, RAQM-1325.

Mujh Se Ahd Hai Ki Mujh Se Sirf Momin Hee Mahabbat Karega Aur Sirf Munaafiq Hee Mujh Se Bughz Rakhega.”

Is Hadith Ko Imam Muslim, Nasa'i Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai.

51/174. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ عَهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.  
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Se Riwaya Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujh Se Ahd Farmaya: Momin Hee Tujh Se Mahabbat Karega Aur Koi Munaafiq Hee Tujh Se Bughz Rakhega. Adi Bin Thabit RadiyAllahu 'Anhu Farmate Hain Ki Main Us Zamaane Ke Logo'n Men Se Hoo'n Jin Ke Liye Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Du'a Farmaa'i Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

52/175. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بِيُغْضِهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

---

AL-HADITH RAQM 51: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/643, RAQM-3736.

AL-HADITH RAQM 52: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/635, RAQM-3717,

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ham Ansaar Log, Munaafiqin Ko Un Ke Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Saath Bughz Kee Waj’h Se Pehchaante The.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai.

53/176. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى.  
وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmaya Karte The Ki Koi Munafiq Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Mahabbat Nahin Kar Sakta Aur Koi Momin Is Se Bughz Nahin Rakh Sakta.”

Ise Imam Tirmidhi Aur Aboo Ya’la Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

---

ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 06/295.

AL-HADITH RAQM 53: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/635, RAQM-3717,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 12/362, RAQM-693I,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/375, RAQM-886.

54/177. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ لِي: أَيْسَبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيكُمْ؟ قُلْتُ: مَعَاذَ اللَّهِ! أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Abd Allah Jadali RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu ‘Anha Kee Khidmat Men Haazir Huwa To Unhone Mujhe Farmaya: Kya Tum Logo’n Men Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Gaali Dee Jaati Hai? Main Ne Kaha: Allah Kee Panaah Ya Main Ne Kaha: Allah Kee Zaat Paak Hai Ya Isi Tarh Ka Koi Kalima Kaha To Unhone Kaha Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Hai Ki Jo Ali Ko Gaali Deta Hai Woh Mujhe Gaali Deta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i, Ahmad Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 54: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
05/133, RAQM-8476,  
AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/323, RAQM-26791,  
HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/130, RAQM-4615,  
HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/130.

55/178. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا  
عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ  
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيًّا لَأَذَيْتَهُ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ibn Abi Mulaykah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ahle Shaam Se Ek Shakhs Aaya Aur Us Ne Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Ke Haa’n Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Bura Bhala Kaha, Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Us Ko Aisa Kehne Se Mana’ Kiya Aur Farmaya: Ae Allah Ke Dushman Too Ne Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Taklif Dee Hai. (Phir Yeh Aayat Padhi: ) “Be-Shak Woh Log Jo Allah Aur Us Ke Rasool Ko Taklif Dete Hain Allah Tabarak Wa-Ta’ala Dunya Wa Aakhirat Men Un Par La’nat Bhejta Hai Aur Allah Ne Un Ke Liye Ek Zillat Aamez Azaab Tayyar Rakha Hai.” Phir Farmaya: Agar Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam (Zaahiran Bhi) Hayaat Hote To Yaqinan (Too Is Baat Ke Zari’e) Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Aziyyat Ka Baais Banta.

Is Hadith Ko ImamHakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Is Hadith Kee Sanad Sahih Hai.

56/179. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا سَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ، حَبِيبِكَ حَبِيبِي، وَحَبِيبِي، حَبِيبُ اللَّهِ وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، وَعَدُوِّي، عَدُوُّ اللَّهِ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Riwayat Men Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Meri (Ya’ni Ali Kee) Taraf Dekh Kar Farmaya: Ae Ali! Too Dunya Wa Aakhirat Men Sardaar Hai. Tera Mahboob Mera Mahboob Hai Aur Mera Mahboob Allah Ka Mahboob Hai Aur Tera Dushman Mera Dushman Hai Aur Mera Dushman Allah Ka Dushman Hai Aur Us Ke Liye Barbaadi Hai Jo Mere Baa’d Tumhaare Saath Bughz Rakhe.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Yeh Hadith Sahih Hai.

57/180. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ  
لِعَلِيِّ: طَوَّبِي لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَّقَ فِيكَ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ  
فِيكَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ammar Bin Yaasir RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Liye Farmate Huwe Suna (Ae Ali) Mubarakbad Ho Use Jo Tujh Se Mahabbat Karta Hai Aur Teri Tasdiq Karta Hai Aur Halaakat Ho Us Ke Liye Jo Tujh Se Bughz Rakhata Hai Aur Tujhe Jhutlaata Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Aboo Ya’la Ne Riwayat Kiya Hai Aur Hakim Ne Kaha Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

58/181. عَنْ سَلْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ: مُجِبُّكَ مُجِيبِي، وَ  
مُبْغِضُكَ مُبْغِضِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

AL-HADITH RAQM 57: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/145, RAQM-4657,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 03/178, 179, RAQM-I602,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 02/337, RAQM-2157.

AL-HADITH RAQM 58: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 06/239, RAQM-6097,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 06/488,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 05/316, RAQM-8304,



“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Farmaya: Tujh Se Mahabbat Karne Waala Mujh Se Mahabbat Karne Waala Hai Aur Tujh Se Bughz Rakhne Waala Mujh Se Bughz Rakhne Waala Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

## 6. فَضْلٌ فِي مَكَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِلْمِيَّة

### ﴿Hāzrat ‘Alī Raḍiya Allāhu ‘Anhu Ke ‘Ilmī Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

59/182. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.**

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Hikmat Ka Ghar Hoo’n Aur Ali Us Ka Darwazah Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

60/183. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: **بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ الْيَمَنَ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُرْسِلْنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ:**

AL-HADITH RAQM 59: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/637,

RAQM-3723,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/634, RAQM-1081,

ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIA’, 01/64.

AL-HADITH RAQM 60: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/301,

RAQM-3582,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/774, RAQM-2310,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/116, RAQM-8417,

إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ  
الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ،  
فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكَتُ  
فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Yaman Kee Taraf Qaazi Bana Kar Bheja. Main Arz-Guzaar Huwa: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Mujhe Bhej Rahe Hain Jab Ki Main Nau Umr Hoo’n Aur Faisla Karne Ka Bhi Mujhe Ilm Nahin. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Be-Shak Allah Ta’ala An-Qarib Tumhaare Dil Ko Hidayat Ata’ Kar Dega Aur Tumhaari Zabaan Us Par Qaa’im Kar Dega. Jab Bhi Fariqayn Tumhaare Saamne Baith Jae’n To Jaldi Se Faisla Na Karna Jab Tak Doosre Kee Baat Na Sun Lo Jaise Tum Ne Pehle Kee Suni Thi. Yeh TariqeKaar Tumhaare Liye Faisle Ko Waazeh Kar Dega. Aap Bayaan Karte Hain Ki Us Du’a Ke Baa’d Main Kabhi Bhi Faisla Karne Men Shak Men Nahin Pada.”

Is Hadith Ko Imam Abu Dawood, Ibn Majah Aur Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

61/184. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Ilm Ka Shahr Hoo’n Aur Ali Us Ka Darwaazah Hai. Lehaaza Jo Us Shahr Men Daakhil Hona Chaahta Hai Use Chaahi’e Ki Woh Us Darwaaze Se Aa’e.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

62/185. عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: أَنَّ أَقْضَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Aboo Is’haq RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Hazrat Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhu Farmaya Karte The Ahle Madinah Men Se Sab Se Achchha Faisla Farmane Waala Ali Bin Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Hai.”

---

AL-HADITH RAQM 61: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/137, RAQM-4637,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/44, RAQM-106.

AL-HADITH RAQM 62: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/145, RAQM-4656,

IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/338,

ASQALANI FI FAT’H-UL-BARI, 08/167.

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

63/186. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَاللَّهِ، مَا نَزَلَتْ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِيْمَا نَزَلَتْ  
وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَيَّ مَنْ نَزَلَتْ، إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا.  
رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ سَعْدٍ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Main Qur’an Kee Har Aayat Ke Baare Men Jaanta Hoo’n Ki Woh Kis Ke Baare, Kis Jagah Par Naazil Hu’i Be-Shak Mere Rabb Ne Mujhe Bohat Ziyaada Samajh Waala Dil Aur Faseeh Zabaan Ata Farmaa’i Hai.”

Ise Imam Aboo Nu’aym Aur Ibn Abi Sa’d Ne Ne Riwayat Kiya Hai.

## 7. فَضْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿Hāzrat ‘Alī Raḍīya Allāhu ‘Anhu Kī Jāme’ Šifāt  
Aur Manāqib Kā Bayān﴾

64/187. عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرُحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا. فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ. لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْئٌ. فَعَاظَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: انظُرْ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاصَابَهُ تُرَابٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: قُمْ أَبَا التُّرَابِ. قُمْ أَبَا التُّرَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

“Hazrat Aboo Haazim Hazrat Sahl Bin Sa’d RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala

AL-HADITH RAQM 64: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 01/169,

RAQM-430,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/2316, RAQM-5924,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1874, RAQM-2409,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 01/211,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/442, RAQM-4137.

Waj’hah-ul-Karim Ko Aboo Turaab Se Badh Kar Koi Naam Mahboob Na Tha, Jab Unhe’n Aboo Turaab Ke Naam Se Bulaaya Jaata To Woh Khush Hote The. Raawi Ne Un Se Kaha: Hame’n Woh Waaqe’a Sunaa’e Ki Aap KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Naam Aboo Turaab Kaise Rakha Gaya: Unhone Farmaya: Ek Din Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hazrat Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Ke Ghar Tashrif Laa’e To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ghar Men Nahin The, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhaara Chachaazaad Kaha’n Hai? Arz Kiya: Mere Aur Un Ke Darmiyan Kuchh Baat Ho Ga’i Jis Par Woh Khafa Ho Kar Baahar Chale Ga’e Aur Ghar Par Qayloola Bhi Nahin Kiya. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kisi Shakhs Se Farmaya: Jaao Talaash Karo Woh Kaha’n Hai? Us Shakhs Ne Aa Kar Khabar Dee Ki Woh Masjid Men So Rahe Hain. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Paas Tashrif Le Ga’e, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Dekha Ki Woh Lete Huwe Hain Jab Ki Un Kee Chaadar Un Ke Pehloo Se Neeche Geer Ga’i Thi Aur Un Ke Jism Par Mitti Lag Ga’i Thi, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Apne Haath Mubarak Se Woh Mitti Jhaadte Jaate Aur Farmate Jaate: Ae Aboo Turaab! Utho, Ae Aboo Turaab Utho.”

Yeh Hadith Muttafaq Alay Hai Aur Mazkoorah Alfaaz Imam Muslim Ke Hain.

65/188. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ عَلَيَّ فَاحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِأَعْطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لِيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Salamah Bin Akwa’ RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Aashobe Chashm Kee Takleef Ke Baa’is Ma’rika’e Khaybar Ke Liye (Ba-Waqte Rawaangi) Mustafwi Lashkar Men Shaamil Na Ho Sake. Pas Unhone Socha Ki Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Peechhe Reh GayaHoo’n, Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Nikle Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Jaa Mile. Jab Woh Shab Aa’i Jis Kee Sub’h Ko Allah Ta’ala Ne Fat’h Ata Farmaa’i To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kal Main Alam (Jhanda) Aise Shakhs Ko Dunga Ya Kal

AL-HADITH RAQM 65: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1357,

RAQM-3499,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 04/1542, RAQM-3972,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1086, RAQM-2812,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1872, RAQM-2407,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 06/362, RAQM-12837.



Alam Woh Shakhs Pakdega Jis Se Allah Aur Us Ka Rasool Mahabbat Karte Hain Ya Farmaya Ki Jo Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Mahabbat Karta Hai, Allah Ta’ala Us Ke Haatho’n Khaybar Kee Fat’h Se Nawaazega. Phir Achaanak Ham Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Dekha, Hala’n Ki Hame’n Un Ke Aane Kee Tawaqqo’ Na Thi. Pas Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Alam Unhe’n Ata Farmaya Aur Allah Ta’ala Ne Un Ke Haatho’n Fat’h Nasib Farmaa’i.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

66/189. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Darwaaze Ke Siwa Masjid Men Khulne Waale Tamam Darwraaze Band Karne Ka Hukm Diya.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai.

67/190. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: قَالَ وَ سَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنْبًا وَ هُوَ طَرِيقُهُ. لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu ‘Anhu Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Ek Taweel Hadith Men Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Masjid Ke Tamam Darwaaze Band Kar Diye Siwaa’e Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Darwaaze Ke Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ali Haalate Janaabat Men Bhi Masjid Men Daakhil Ho Sakta Hai. Kyun Ki Yahi Us Ka Raasta Hai Aur Us Ke Ilaawah Us Ke Ghar Ka Koi Aur Raasta Nahin Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

68/191. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ: رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَ لَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لِأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: زَوْجَهُ

---

AL-HADITH RAQM 67: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/330, RAQM-3062.

AL-HADITH RAQM 68: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/26, RAQM-4797,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/567, RAQM-955,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/120.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتُهُ، وَوَلَدَتْ لَهُ، وَ سَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ  
وَ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Ham Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Zamaane Men Kaha Karte The Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tamam Logo’n Se Afzal Hain Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Baa’d Hazrat Aboo Bakr Siddiq RadiyAllahu ‘Anhu Aur Phir Hazrat Umar RadiyAllahu ‘Anhu Aur Yeh Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Teen-03 Khaslate’n Ata Kee Ga’i Hain. Un Men Se Agar Ek Bhi Mujhe Mil Jaati To Yeh Mujhe Surkh Qimati Oonton Ke Milne Se Ziyaada Mahboob Hai. (Aur Woh Teen-03 Khaslate’n Yeh Hain) Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ka Nikaah Apni Saahib-Zaadi Se Kiya Jis Se Un Kee Aulaad Hu’i Aur Dooari Yeh Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Masjide Nabawi Kee Taraf Khulne Waale Tamam Darwaaze Band Karwa Diye Magar Un Ka Darwaaza Masjid Men Raha Aur Teesari Yeh Ki Un Ko Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Khaybar Ke Din Alam Ata Farmaya.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

69/192. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْعٍ قَالَ: حَاطَبْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ  
الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: فَأَعْلَمْنَا

مَنْ هُوَ؟ وَاللَّهِ لِنَبِيِّنَّ عِتْرَتُهُ، قَالَ: أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِي،  
قَالُوا: إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفْ إِذَا، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكَلِكُمْ  
إِلَيَّ مَا وَكَلِكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَبِزَارٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Sab’a Bayan Karte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Ek Din Hame’n Khutba Diya Aur Farmaya: Us Zaat Kee Qasam Jis Ne Daane Ko Phaada Aur Makhlooqaat Ko Zindagi Ata Farmaa’i Yeh Daadhi Zaroor Biz-Zaroor Khoon Se Khizaab Kee Jaa’egi (Ya’ni Meri Daadhi Mere Sar Ke Khoon Se Surkh Ho Jaa’egi) Raawi Bayaan Karte Hain Ki Logo’n Ke Kaha: Pas Aap Hame’n Bata De’n Woh Kaun Hai? Ham Us Kee Nasl Meeta Denge. Aap KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Main Tumhe’n Allah Kee Qasam Deta Hoo’n Ki Mere Qaatil Ke Ilaawah Kisi Ko Qatal Na Kiya Jaa’e. Logo’n Ne Kaha Agar Aap Yeh Jaante Hain To Kisi Ko Khalifah Muqarrar Kar De’n, Aap Ne Farmaya: Nahin Lekin Main Tumhe’n Woh Cheez Saunpta Hoo’n Jo Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Tumhe’n Saunpi (Ya’ni Baa-Ham Mushaawarat Se Khalifah Muqarrar Karo).”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

70/193. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ زَوَّجْتُكَ أَقْدَمَ أُمَّتِي سَلْمًا، وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَ أَعْظَمَهُمْ حِلْمًا؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhu Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Se Farmaya: Kya Too Raazi Nahin Ki Main Ne Tera Nikaah Ummat Men Sab Se Pehle Islam Laane Waale, Sab Se Ziyaada Ilm Waale Aur Sab Se Ziyaada Burd Baar Shakhs Se Kiya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

71/194. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدْعُوا لِي سَيِّدَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَعَلَيَّ سَيِّدُ الْعَرَبِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُونُعَيْمٍ.

AL-HADITH RAQM 70: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/26,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 20/229,

HINDI FI KANZ-UL-‘UMMAL, RAQM-32924, 32925,

SUYOOTI FI JAM’ AL-JAWAMI’, AL-JAMI’AL-KABIR FI AL-HADITH WA-AL-JAM’ AL-SAGHIR WA-ZAWA’IDUH, RAQM-4273, 4274.

AL-HADITH RAQM 71: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/134, RAQM-4626,

ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 01/63,

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Paas Sardaaare Arab Ko Bulaaao. Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah SallAllahu Ta’ala Alayka Wa Sallam! Kya Aap Arab Ke Sardaar Nahin? Farmaya: Main Tamam Aulaade Aadam Ka Sardaar Hoo’n Aur Ali Arab Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Haakim Aur Aboo Nu’aym Ne Riwayat Kiya Hai.

72/195. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّظْرُ إِلَيَّ وَجْهُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ali Ke Chehre Ko Takna Ibaadat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/131.

AL-HADITH RAQM 72: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/152, RAQM-4682,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 10/76, RAQM-10006,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 04/294, RAQM-6865,

AN MUAZ BIN JABAL WA ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’  
WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 05/58,

قال ألهيشمي، وثقه ابن حبان و قال مستقيم الحديث .

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/119.

73/196. عَنْ هُبَيْرَةَ: خَطَبَنَا الْـحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُهُ بِالرَّايَةِ، جَبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ، لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Hubayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Imam Husayn Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Hame’n Khutba Diya Aur Farmaya: Guzishtah Kal Tum Se Woh Hasti Juda Ho Ga’i Hai Jin Se Na To Guzishtah Log Ilm Men Sabaqat Le Sake Aur Na Hee Baa’d Men Aane Waale Un Ke Martaba’e Ilmi Ko Paa Sakenge, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Ko Apna Alam De Kar Bhejte The Aur Jibra’il عليه السلام Aap Kee Daae’n Taraf Aur Mika’il عليه السلام Aap Kee Baae’n Taraf Hote The Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Fat’h Hone Tak Woh Aap Ke Saath Rehte The.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

74/197. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ عَلَيَّ رضي الله عنه بِأَبِي تُرَابٍ، فَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ كُنَاهُ إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ.

AL-HADITH RAQM 73: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/199, RAQM-I719,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 02/336, RAQM-2155.

AL-HADITH RAQM 74: AKHRAJAHU AL-BAZZAR FI AL-MUSNAD, 04/248, RAQM-I417,

“Hazrat Ammar Bin Yaasir RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Aboo Turaab (Mitti Ka Baap) Kee Kunniyyat Se Nawaaza. Pas Yeh Kunniyyat Unhe’n Sab Kunniyyaton Se Ziyaada Mahboob Thi.”

Is Hadith Ko Imam Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

75/198. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: عَلِيٌّ مَعَ

الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلِيَّ الْحَوْضَ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Fartmati Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Ki Ali Aur Qur’an Ka Choli Daaman Ka Saath Hai. Yeh Dono’n Kabhi Bhi Juda Nahin Honge Yaha’n Tak Ki Mere Paas Hauze Kawsar Par (Ikatthe) Aa’enge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/101.

AL-HADITH RAQM 75: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-  
AWSAT, 05/135, RAQM-4880,

TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 01/255,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/134.



76/199. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:  
النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ.  
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Jaabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Farmate Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Log Juda-Juda Nasab Se Ta’alluq Rakhte Hain Jab Ki Main Aur Ali Ek Hee Nasab Se Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

77/200. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: السَّبْقُ ثَلَاثَةٌ: السَّابِقُ إِلَيَّ  
مُوسَى، يُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَ السَّابِقُ إِلَيَّ عِيسَى، صَاحِبُ يَاسِينَ، وَ السَّابِقُ  
إِلَيَّ مُحَمَّدٍ ﷺ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Sabaqat Le Jaane Waale Teen-03 Hain.

---

AL-HADITH RAQM 76: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 04/263, RAQM-I65I,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 04/303, RAQM-6888,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/100.

AL-HADITH RAQM 77: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/93, RAQM-III52,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/102.

Hazrat Moosa ﷺ Kee Taraf (Un Par Imaan Laa Kar) Sabaqat Le Jaane Waale Hazrat Yoosha' Bin Noon Hain, Hazrat Isa ﷺ Kee Taraf Sabaqat Le Jaane Waale Saahib Yaasin Hain Aur Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Taraf Sabaqat Le Jaane Waale Ali Bin Abi Talib Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

78/201. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِأُمِّ سَلَمَةَ: هَذَا عَلَيَّ  
بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَحْمُهُ لَحْمِي، وَ دَمُهُ دَمِي، فَهُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ  
مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Riwayat Farmate Hain Ki Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ummi Salamah RadiyAllahu 'Anha Se Farmaya: Yeh Ali Bin Abi Talib Hai Is Ka Gosht Mera Gosht Hai Aur Is Ka Khoon Mera Khoon Hai Aur Yeh Mere Liye Aise Hai Jaise Hazrat Moosa ﷺ Ke Liye Hazrat Haroon ﷺ Magar Yeh Ki Mere Baa'd Koi Nabi Nahin.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 78: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 12/18, RAQM-I234I,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/III.

79/202. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحِيَ إِلَيَّ فِي عَلِيِّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي: أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Akim RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Ki Allah Ta’ala Ne Shab’e Me’raj Wahy Ke Zari’e Mujhe Ali Kee Teen-03 Sifaat Kee Khabar Dee Yeh Ki Woh Tamam Momin Ke Sardaar Hain, Muttaqin Ke Imam Hain Aur (Qiyamat Ke Roz) Noorani Chehre Waalo’n Ke Qaa’id Honge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

80/203. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) قَالَ: مَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Woh Farmate Hain Ki Yeh Aayat: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Kee Shaan Men Utri Hai Aur Farmaya: Is Se Muraad Mu’minin Ke Dilo’n

---

AL-HADITH RAQM 79: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-US-SAGHIR, 02/88.

AL-HADITH RAQM 80: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/348, RAQM-5514,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/125.

Men (Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim) Kee Mahabbat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

81/204. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas'ood RadiyAllahu 'Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmaya: Allah Ta'ala Ne Mujhe Hukm Diya Hai Ki Main Fatimah Nikah Ali Se Kar Du'n.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

82/205. عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عَلِيٌّ رضي الله عنه نَائِمٌ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكَ أَبُو تُرَابٍ، أَنْتَ أَبُو تُرَابٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

---

AL-HADITH RAQM 81: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 10/156, RAQM-10305,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/204,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAMI' AS-SAGHIR, 02/215,

HUSAYNI FI AL-BAYAN WA'T-Ta'RIF, 01/174.

AL-HADITH RAQM 82: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 01/237, RAQM-775,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/101.

“Hazrat Aboo Tufayl RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Laa’e To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Mitti Par So Rahe The. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Too Sab Naamon Men Se Aboo Turaab (Mitti Ka Baap) Ka Ziyaada Haq-Daar Hai Too Aboo Turaab Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

83/206. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعَدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا. وَأَنَّهُ جُرِبَ فَلَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Jaabir RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ghazwa’e Khaybar Ke Roz Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Qal’a’e Khaybar Ka Darwaazah Utha Liya Yaha’n Tak Ki Musalman Qal’a Par Chadh Ga’e Aur Use Fat’h Kar Liya Aur Yeh Aazmoodah Baat Hai Ki Us Darwaazeh Ko Chaalis-40 Aadami Mil Kar Uthaate The.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 83; AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/374, RAQM-32139,

ASQALANI FI FAT’H-UL-BARI, 07/478,

AJLOONI FI KASHF-UL-KHAFI’ WA MUZIL AL-ILBAS ‘AMMAH ISTUHIRA MIN AL-AHADITH ‘ALA ALSINAT-IN-NAS, 01/438, RAQM-II68,

TABARI FI TARIKH AL-UMAM WA’L-MULOOK AL-MA’ROOF TARIKH AT-TABARI, 02/137,

IBN HISHAM FI AS-SIRAT-UN-NABAWIYYAH, 04/306.

84/207. عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حَصِينٍ يَحِدُّ النَّظْرَ  
إِلَيَّ عَلَيَّ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: النَّظْرُ إِلَيَّ عَلَيَّ  
عِبَادَةٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Taliq Bin Muhamaad RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Men Hazrat Imran Bin Husayn RadiyAllahu ‘Anhu Ko Dekha Ki Woh Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Tik-Tiki Baandh Kar Dekh Rahe The. Kisi Ne Un Se Poochha Ki Aap Aisa Kyun Kar Rahe Hain? Unhone Jawaab Diya Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Hai Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Taraf Dekhna Bhi Ibaadat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 84: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF,  
06/374, RAQM-32139,

ASQALANI FI FAT’H-UL-BARI, 07/478,

AJLOONI FI KASHF-UL-KHAFĀ’ WA MUZIL AL-ILBAS ‘AMMAH  
ISTUHIRA MIN AL-AHADITH ‘ALA ALSINAT-IN-NAS, 01/438,  
RAQM-II68,

TABARI FI TARIKH AL-UMAM WA’L-MULOOK AL-MA’ROOF  
TARIKH AT-TABARI, 02/137,

IBN HISHAM FI AS-SIRAT-UN-NABAWIYYAH, 04/306.

85/208. عَنْ عَامِرٍ قَالَ: غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ عَلِيُّ يَغْسِلُهُ وَيَقُولُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طُبْتَ مَيِّتًا وَحَيًّا. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

“Hazrat Aamir RadiyAllahu ‘Anhu Byan Karte Hain Ki Hazrat Ali Bin Abi Talib Aur Fadl Bin Abbas Aur Usaamah Bin Zayd RadiyAllahu ‘Anhum Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Ghusl Diya Jab Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Ghusl De Rahe The To Kehte The: Ya RasoolAllah ﷺ! Mere Maa-Baap Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Qurbaan Ho’n! Aap Wisaal Farma Kar Aur Zinda Reh Kar Dono’n Haalato’n Men Paakizah The.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Sa’d Ne Bayan Kiya Hai.

86/209. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ. رَوَاهُ الدِّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hazrat Ali Ka Zikr Bhi Ibaadat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Daylamin Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 85: AKHRAJAHU IBN SA’D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 02/277.

AL-HADITH RAQM 86: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 02/244, RAQM-1351.

87/210. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَيَّ وَجْهَ عَلِيِّ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَرَأَيْكَ تُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَيَّ وَجْهَ عَلِيِّ فَقَالَ: يَا بِنْتِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: النَّظَرُ إِلَيَّ وَجْهَ عَلِيِّ عِبَادَةٌ.

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ.

“Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Main Ne Apne Waalid Hazrat Aboo Bakr RadiyAllahu ‘Anhu Ko Dekha Ki Woh Kasrat Se Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Chehre Ko Dekha Karte. Pas Main Ne Aap Se Poochha: Ae Abba Jaan! Kya Waj’h Hai Ki Aap Kasrat Se Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Chehre Kee Taraf Takte Rehte Hain? Hazrat Aboo Bakr Siddiq RadiyAllahu ‘Anhu Ne Jawab Diya: Ae Meri Beti! Main Ne Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmate Huwe Suna Hai Ki Ali Ke Chehre Ko Takna Bhi Ibaadat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Asakir Ne Bayan Kiya Hai.

88/211. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ لِعَلِيِّ: هَذَا جِبْرِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ، وَ

AL-HADITH RAQM 87: AKHRAJAHU IBN ASAKIR FI TARIKH DIMISHQ AL-KABIR, 42/355,

ZAMAKHSHARI FI AL-MUKHTASARU MIN KITAB-IL-MUWAFAQATI BAYNA AHL-UL-BAYTI WA’S-SAHABAH,: 14.

AL-HADITH RAQM 88: AKHRAJAHU AL-MUHIBB-UD-DEEN TABARI FI AR-RİYAD-UN-NADIRAH FI MANAQIB-IL-‘ASHRAH, 03/146,



أَشْهَدَ عَلِيَّ تَزْوِجَكَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ، وَ أَوْحَى إِلَيَّ شَجَرَةَ طُوبَى أَنْ  
 أَنْشُرِي عَلَيْهِمُ الدَّرَّ وَالْيَأْقُوتَ، فَنَشَرْتُ عَلَيْهِمُ الدَّرَّ وَالْيَأْقُوتَ، فَابْتَدَرْتُ  
 إِلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْنُ: يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدَّرِّ وَالْيَأْقُوتِ، فَهَمَّ يَتَهَادُونَهُ  
 بَيْنَهُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ مُحِبُّ الطَّبْرِيِّ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Masjid Men Tashrif Farma The Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Farmaya: Yeh Jibra’il Amin عليه السلام Hain Jo Mujhe Khabar De Rahe Hain Ki Allah Ta’ala Ne Fatimah Se Tumhaari Shaadi Kar Dee Hai. Aur Tumhaare Nikaah Par (Malaa’e Aa’la) Men Chaalis Hazaar-40.000 Firishto’n Ko Gawaah Ke Taur Par Majlise Nikaah Men Sharik Kiya, Aur Shajarahah’e Tooba Se Farmaya: Un Par Moti Aur Yaqoot Nichhaawar Karo, Phir Dilkash Aankhon Waali Hoore’n Un Motiyo’n Aur Yaaqooto’n Se Thaal Bharne Lagi’n. Jinhe’n (Taqrife Nikaah Men Shirkat Karne Waale) Firishte Qiyamat Tak Ek Doosre Ko Bataure Taha’if Dete Rahenge.”

Is Hadith Ko Muhibb Tabari Ne Riwayat Kiya Hai.

al-Bābu al-Rābi‘u:

مَنَاقِبُ الْحَسَنَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام

﴿Hasanayn Karīmayn ‘Alayhimā

Al-Salām Ke Manāqib﴾

1. فَضْلٌ فِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَاهُمَا وَ أَذَانِهِ فِي

أُذُنَيْهِمَا وَ عَقِيْقَتِهِ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

﴿Ḥuzūr Nabīye Akram ﷺ Kā Ḥasanayn

Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kā Nām Rakhne,

Un Ke Kānoñ Meñ Azān Dene Aur Un Kī Ṭaraf Se

‘Aqīqah Karne Kā Bayān﴾

1/212. عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُذِنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ

بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَكَلَّتَهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Aboo Rafi’ RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Ne Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dekha Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Ke Haa’n Hasan Bin Ali RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Wilaadat Hone Par Un Ke Kaano’n Men Namaz Waali Azaan Dee.”

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 04/97,  
RAQM-1514,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/328, RAQM-5105,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/391.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Aboo Dawud Aur Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai. Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

2/213. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasanayn Karimayn RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Taraf Se Bataure Aqiqah Men Ek-Ek Dunba Zab’h Kiya.”

Is Hadit Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

3/214. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasanayn Karimayn RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Taraf Se Aqiqe Men Do-02 Dunbe Zab’h Kiye.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/107,  
RAQM-284I,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 09/302,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/316, RAQM-II856.

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN, 07/165,  
RAQM-4219,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 03/76, RAQM-4545.

4/215. عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ حَسَنٌ سَمَّاهُ حَمْرَةَ، فَلَمَّا وُلِدَ حُسَيْنٌ سَمَّاهُ بِاسْمِ عَمِّهِ جَعْفَرًا قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَذَيْنِ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Bayan Farmate Hain Ki Jab Hazrat Hasan Paida Huwe To Unhone Un Ka Naam Hamzah Rakha Aur Jab Hazrat Husayn Paida Huwe To Un Ka Naam Un Ke Chacha Ke Naam Par Ja’far Rakha. (Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Farmate Hain) Mujhe Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Bula Kar Farmaya: Mujhe Un Ke Yeh Naam Tabdeel Karne Ka Hukm Diya Gaya Hai. (Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Farmate Hain) Main Ne Arz Kiya: Allah Aur Us Ka Rasool ﷺ Behtar Jaante Hain. Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ke Naam Hasan Wa Husayn Rakhe.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal, Aboo Ya’la Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Farmaya Ki Is Hadith Kee Sanad Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 4: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
01/159,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 01/384, RAQM-498,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/308, RAQM-7734.

5/216. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةَ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَقَالَ: بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَيْنَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ: بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ، ثُمَّ لَمَّا وَلَدَتِ الثَّالِثَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ: بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ وَلَدِ هَارُونَ شَبْرٍ وَ شَبِيرٍ وَ مُشْبِرٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Riwayat Karte Hain Ki Jab Hazrat Fatimah سلام الله عليها Ke Haa’n Hazrat Hasan Kee Wilaadat Hu’i To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Laa’e Aur Farmaya: Mujhe Mera Beta Dikhaao, Us Ka Naam Kya Rakha Hai? Main Ne Arz Kiya: Main Ne Us Ka Nam Harb Rakha Hai. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Nahin Balki Woh Hasan Hai Phir Jab Hazrat Husayn Kee Wilaadat Hu’i To Huzoor

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/II8, RAQM-935,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/180, RAQM-4773,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/410, RAQM-6985,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/96, RAQM-2773, 2774.

Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Laa’e Aur Farmaya: Mujhe Mera Beta Dikhaao Tum Ne Us Ka Naam Kya Rakha Hai? Main Ne Arz Kiya: Main Ne Usa Ka Naam Harb Rakha Hai. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Nahin Balki Woh Husayn Hai Phir Jab Teesra Beta Paida Huwa To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Laa’e Aur Farmaya: Mujhe Mera Beta Dikhaao, Tum Ne Us Ka Naam Kya Rakha Hai? Main Ne Arz Kiya: Main Ne Us Ka Naam Harb Rakha Hai. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Hai: Nahin Balki Us Ka Naam Muhassin Hai. Phir Farmaya: Main Ne Un Ke Naam Haroon (عَلَيْهِ السَّلَام) Ke Beto’n Ke Shabbar, Shabbir Aur Mushabbir Ke Naam Par Rakhe Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Hakim Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai . Aur Imam Hakim Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isand Hai.

6/217. عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّاهُ حَسَنًا فَلَمَّا وَلَدَتْ حُسَيْنًا جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا تَعْنِي حُسَيْنًا فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

“Hazrat Ikrimah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Jab Sayyidah Fatimah Salamu Allah Alayha Ke Haa’n Hasan Bin Ali Alayhima Al-Salam Kee Wilaadat Hu’i To Woh Unhe’n Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee

Khidmat Men Laa'en, Lehaaza Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ka Naam Hasan Rakha, Aur Jab Husayn ﷺ Kee Wilaadat Hu'i To Unhe'n Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargha Men Laa Kar Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Yeh (Husayn) Is (Hasan) Se Ziyaada Khoob-Soorat Hai Lehaaza Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Is Ke Naam Se Akhaz Kar Ke Us Ka Naam Husayn Rakha”

Is Hadith Ko Imam Abd-ur-Razzaq Ne Riwayat Kiya Hai.



2. فَضْلٌ فِي أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ

خَيْرُ النَّاسِ نَسَبًا

﴿Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kā  
Ahle Bait Meñ Se Hone Aur Nasab Ke E‘tebār Se  
Tamām Logoñ Se Beh-Tar Hone Kā Bayān﴾

7/218. عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه وَ سَأَلَهُ عَنِ  
الْمُحْرَمِ، قَالَ شُعْبَةَ: أَحْسِبُهُ بِقَتْلِ الذُّبَابِ، فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ  
عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُمَا  
رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Ibn Aboo Na’m RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Kisi Ne Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Se Haalate Ihraam Ke Muta’alliq Daryaافت Kiya. Shu’bah Farmate Hain Ki Mere Khayaal Men Ihraam Baandhne Waale Ka Makkhi Maarne Ke Baare Men Poochha Tha. Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Farmaya: Ahle Iraq Malkkhi Maarne Ka Hukm Puchhte Hain Haala’n Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Nawaase (Imam Husayn RadiyAllahu ‘Anhu) Ko

AL-HADITH RAQM 7: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1371,

RAQM-3543,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/85, RAQM-5568,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/425, RAQM-6969,

TAYALISI FI AL-MUSNAD, 01/260, RAQM-1927.

Shahid Kar Diya Tha Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Woh Dono’n (Hasan Wa Husayn عليهما السلام) Hee To Mere Gulshane Dunya Ke Do Phool Hain.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

8/219. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ دَمِ الْبُعُوضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: انظُرُوا إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd-ur-Rehman Bin Abi Na’m RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Iraqi Ne Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Se Poochha Ki Kapde Par Machchhar Ka Khoon Lag Jaa’e To Kya Hukm Hai? Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Farmaya: Us Kee Taraf Dekho, Machchhar Ke Khoon Ka Mas’alah Puchhata Hai Haala’n Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Bete (Husayn) Ko Shahid Kiya Hai Aur Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala

---

AL-HADITH RAQM 8: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/657,

RAQM-3770,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/50, RAQM-8530,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/93, RAQM-5675.

Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Hasan Aur Husayn Hee Mere Gulshane Dunya Ke Do-02 Phool Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi, Nasa'i Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

9/220. عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً. وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ، فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Safiyyah Bint Shaybah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Ummu Al-Mu’minin Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sub’h Ke Waqt Baahar Tashrif Laa’e Dar-Aa’n-Haale-Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Chaadar Odhi Hu’i Thi Jis Par Siyaah Oon Se Kajaawon Ke Naqsh Bane Huwe The. Hazrat Hasan Bin Ali عليهما السلام Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Us Chaadar Men Daakhil Kar Liya Phir Hazrat Husayn RadiyAllahu ‘Anhu Aa’e Aur Aap Ke Ham-Raah Chaadar Men Daakhil Ho Ga’e, Phir Hazrat Fatimah عليها السلام Aa’en, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Us Chaadar Men Daakhil Kar Liya, Phir Hazrat Ali

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1883, RAQM-2424,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/370, RAQM-36102,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/159, RAQM-4705.

KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aa’e To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Bhi Chaadar Men Le Liya. Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Yeh Aayate Mubaraka Padhi: Ae Ahle Bait! Allah To Yahī Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh Kee) Aaludagi Door Kar De Aur Tum Ko Kamaal Darjah Tahaarat Se Nawaaz De.”

Is Hadith Ko Imam Muslim, Ibn Abi Shaybah Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

10/221. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Aayate Mubahalah: “Aap Farma De’n Aa’o Ham Apne Beto’n Ko Bulaate Hain Aur Tum Apne Beto’n Ko Bulaao.” Naazil Hu’i To Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn عليهما السلام Ko Bulaaya, Phir Farmaya: Ya Allah! Yeh Mere Ahle (Bayt) Hain.”

AL-HADITH RAQM IO: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1871,  
RAQM-2404,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/225, RAQM-2999,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/185, RAQM-I608,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/163, RAQM-4719.

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Farmate Hain Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

11/222. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَ أَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَيَّ خَيْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Parwardah Hazrat Umar Bin Abi Salmah RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Jab Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Ke Ghar Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Yeh Aayat: Ae Ahle Bait! Allah To Yahi Chaahta Hai Ki Tum Se (Har Tarh) Kee Aaludagi Door Kar De Aur Tum Ko Khoob Paak-o Saaf Kar De.” Naazil Hu’i To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah Aur Hasanayn Karimayn Salamu Allah ‘Alayhim Ko Bulaaya Aur Unhe’n Ek Kamli Men Dhaanp

AL-HADITH RAQM II: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/351,

RAQM-3205,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/699, RAQM-3871.

Liya. Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe The, Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe'n Bhi Kamli Men Dhaanp Liya, Phir Farmaya: Ae Allah! Yeh Mere Ahle Bait Hain, Pas In Se Har Qism Kee Aaludagi Door Farma Aur Inhe'n Khoob Paak-o Saaf Kar De.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

12/223. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَلاءِ أَهْلُ بَيْتِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Ummu Al-Mu'minin Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu 'Anha Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Fatimah, Hasan Aur Husayn عليهها السلام Ko Jam'a Farma Kar Un Ko Apni Chaadar Men Le Liya Aur Farmaya: Ae Allah! Yeh Mere Ahle Bait Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai

---

AL-HADITH RAQM 12: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 03/53, RAQM-2663,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 23/308, RAQM-696,

ABOO AL-MAHASIN FI MU'TASAR AL-MUKHTASAR, 02/266.

13/224. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ بَنِي أُتَيْشٍ. فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَيِّهِمْ مَا خَلَا وَكَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Umar Bin Khattab RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Har Aurat Ke Beto’n Kee Nisbat Un Ke Baap Kee Taraf Hoti Hai Ma-Siwa’e Fatimah Kee Aulaad Ke, Ki Main Hee Un Ka Nasab Hoo’n Aur Main Hee In Ka Baap Hoo’n.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

14/225. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا سَبَبِي وَنَسَبِي وَكُلُّ وَكَدِ أَبِي فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَيِّهِمْ مَا خَلَا وَكَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Umar Bin Khattab RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Qiyamat Ke Din Mere Hasab-o-

---

AL-HADITH RAQM I3: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/44, RAQM-263I.

AL-HADITH RAQM I4: AKHRAJAHU ABD-UR-RAZZAQ FI AL-MUSANNAF, 06/I64, RAQM-IO354,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/64, RAQM-I3172,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 06/357, RAQM-6609,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/44, RAQM-2633.

Nasab Ke Siwaa Har Silsila'e Nasab Munqata' Ho Jaagea. Har Bete Kee Nisbat Baap Kee Taraf Hoti Hai Ma-Siwa'e Aulaade Fatimah Ke Ki Un Ka Baap Bhi Main Hee Hoo'n Aur Un Ka Nasab Bhi Main Hee Hoo'n."

Is Hadith Ko Imam Abd-ur-Razzaq, Bayhqui Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

15/226. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَعَمَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًّا وَأُمًَّّا؟ هُمَا الْحَسَنُ وَالحُسَيْنُ، جَدُّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَ جَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ حُوَيْلِدٍ، وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَ عَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ وَ خَالَهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَالَاتُهُمَا زَيْنَبُ وَ رُقِيَّةُ وَ أُمَّ كَلْتُومَ بِنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ، جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ أَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ أُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ عَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ عَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ خَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ هُمَا فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Logo! Kya Main Tumhe'n Un Ke



Baare Men Khabar Na Doo'n Jo (Apne) Naana-Naani Ke I'tebaar Se Sab Logo'n Se Behtar Hain? Kya Main Tumhe'n Un Ke Baare Men Na Bataaun Jo (Apne) Chacha Aur Phuphi Ke Lihaaz Se Sab Logo'n Se Behtar Hain? Kya Main Tumhe'n Un Ke Baare Men Na Bataau'n Jo (Apne) Maamoo'n Aur Khaala Ke I'tebaar Se Sab Logo'n Se Behtar Hain? Kya Main Tumhe'n Un Ke Baare Men Khabar Na Doo'n Jo (Apne) Maa Baap Ke Lihaaz Se Sab Logo'n Se Behtar Hain? Woh Hasan Aur Husayn Hain, Un Ke Naana Allah Ke Rasool, Un Kee Naani Khadijah Bint Khuwaylid, Un Kee Waalidah Fatimah Bint RasoolAllah, Un Ke Waalid Ali Bin Abi Talib, Un Ke Chacha Ja'far Bin Abi Talib, Un Kee Phuphi Umme Haani Bint Abi Talib, Un Ke Maamoo'n Qasim Bin RasoolAllah Aur Un Kee Khaala RasoolAllah Kee Betiya'n Zaynab, Ruqayyah Aur Umme Kulthum Hain. Un Ke Naana, Waalid, Waalidah, Chacha, Phuphi, Maamoo'n Aur Khaala (Sab) Jannat Men Honge Aur Woh Dono'n (Hasanayn Karimayn) Bhi Jannat Men Honge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai. -

16/227. عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَجِبُهُمَا؟ فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا أُجِبُهُمَا وَهُمَا رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا أَشْمُهُمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ۝

“Hazrat Aboo Ayyub Ansari RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala

Aalihi Wa-Sallam Kee Bargahе Aqdas Men Haazir Huwa To (Dekha Ki) Hasan Wa Husayn عَلَيْهِمَا السَّلَام Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saamne Ya God Men Khel Rahe The. Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Kya Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam In Se Mahabbat Karte Hain? Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main In Se Mahabbat Kyun Na Karoo’n. Haala’n Ki Mere Gulshane Dunya Ke Yahi To Do-02 Phool Hain Jin Kee Mahak Soonghta Rehta Hoo’n (Aur Inhin Phoolon Kee Khushbu Se Kaif-o Suroor Paata Hoo’n).”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

17/228. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ وَفَدَ نَجْرَانَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ: هُوَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ يُلَاعِنَكَ؟ إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ: وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَإِذَا شِئْتُمْ فَبِجَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَمَعَ وَلَدَهُ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَالَ رَبِّيسُهُمْ: لَا تُلَاعِنُوا هَذَا الرَّجُلَ. فَوَاللَّهِ، لَئِنْ لَا عَنْتُمُوهُ لَيُخَسِفَنَّ أَحَدٌ صَلَبِيَّتٍ فَبِجَاءِ وَاقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَكَ سُفَهَاؤُنَا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَعْفِيَنَا قَالَ: قَدْ أَعْفَيْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَذَابَ قَدْ أَظَلَّ نَجْرَانَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Jabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Najraan Ka Ek Wafd Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Aaya Aur Poochha Ki Aap Kee Hazrat Isa Ibn Maryam ﷺ Ke Baare Men Kya Raa’e Hai? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Woh Roohullah, Kalimatullah, Allah Ke Bande Aur Us Ke Rasool Hain. Us Wafd Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Kaha: Kya Aap Hamaare Saath Mubahala Karte Hain Ki Hazrat Isa ﷺ Aise Na The? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tum Yahi Chahte Ho? Unhone Kaha: Haa’n. To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jaise Tumhari Marzi Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ghar Tashrif Laa’e Aur Apne Beto’n Hasan Wa Husayn ﷺ Ko Saath Le Jaane Ke Liye Jam’a Kiya. Un Ke Ek Sardaar Ne Un Se Kaha Ki Is Aadami Se Mubahala Mat Karo. Allah Kee Qasam! Agar Tum Ne Aisa Kiya To Tumhaara Koi Bhi Mazboot Se Mazboot Aadami Bhi Nahin Bachega. Phir Woh Isaai Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Aa’e Aur Kaha Ki Ae Aboo Al-Qaasim! Hamaare Kuchh Bewaqoof Logo’n Ne Aap Se Mubahalah Ka Iraada Kiya Tha Ham Aap Se Guzaarish Karte Hain Ki Aap Hame’n Muaaf Kar De’n. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Ne Unhe’n Muaaf Kiya. Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Azaab Ne Najraan Ko Gher Liya Tha.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

### 3. فَضْلٌ فِي كَوْنِ حُبِّهِمَا حُبَّ النَّبِيِّ وَبُغْضِهِمَا بُغْضَ

النَّبِيِّ ﷺ  
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ

﴿Hasanayn Karīmayn Se Maḥabbat Ḥuzūr ﷺ Se  
Maḥabbat Aur Ḥasanayn Karīmayn ‘alayhimā  
Al-Salām Se Buḡḡ Ḥuzūr ﷺ Se Buḡḡ Hone Kā  
Bayān﴾

18/229. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ  
وَ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي  
فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.  
وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Ali Bin Abi Talib RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasan Aur Husayn ﷺ Ka Haath Pakdada Aur Farmaya: Jis Ne Mujh Se Aur In Dono’n Se Mahabbat Kee Aur In Ke

AL-HADITH RAQM I8: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/641,

RAQM-3733,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/77, RAQM-576,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/693, RAQM-  
II85,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, N 03/50, RAQM-2654.

Waalid Se Aur In Kee Waalidah Se Mahabbat Kee Woh Qiyaamat Ke Din Mere Saath Mere Hee Thikaane Par Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

19/230. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله وسلامه عليه قَالَ لِعَلِيِّ وَ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رضي الله عنهم: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَ سَلْمٌ لِمَنْ سَأَلْتُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ.

و في رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صلوات الله وسلامه عليه إِلَى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، فَقَالَ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَ سَلْمٌ لِمَنْ سَأَلَكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn سلام الله عليهم Se Farmaya: Jis Se Tum Ladoge Meri Bhi Us Se Ladaa’i Hogi, Aur Jis Se Tum Sulh Karoge Meri Bhi Us Se Sulh Hogi.”

---

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/699,

RAQM-3870,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/52, RAQM-I45,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 15/434, RAQM-6977,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/378, RAQM-32181,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/161, RAQM-4714,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/442.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

Ek Aur Riwayat Men Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husayn ﷺ Kee Taraf Dekha Aur Farmaya: Jo Tum Se Ladega Main Us Se Ladunga, Jo Tum Se Sulh Karega Main Us Se Sulh Karunga (Ya’ni Jo Tumhara Dushman Hai Woh Mera Dushman Hai Aur Jo Tumhara Dost Hai Woh Mera Bhi Dost Hai).”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

20/231. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ne Hasan Aur Husayn عليهما السلام Se Mahabbat Kee, Us Ne Dar-Haqiqat Mujh Hee Se Mahabbat Kee Aur Jis Ne Hasan Aur Husayn Se Bughz Rakha Us Ne Mujh Hee Se Bughz Rakha.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah, Nasa’i Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 20: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/51,

RAQM-143,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/49, RAQM-8168,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/288, RAQM-7863,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 05/102, RAQM-4795.

21/232. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبِّ هَذَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ne Mujh Se Mahabbat Kee, Us Par Laazim Hai Ki Woh Un Dono’n Se Bhi Mahabbat Kare.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Ibn Khuzaymah Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 21: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
05/50, RAQM-8170,  
NASA’I FI FADA’IL AL-SAHABAH, 01/20, RAQM-67,  
IBN KHUZAYMAH FI AS-SAHIH, 02/48, RAQM-887,  
BAZZAR FI AL-MUSNAD, 05/226, RAQM-1834.

#### 4. فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَسِيلَةِ وَالْوَسِيلَةِ

﴿Huzūr Nabīye Akram ﷺ Kī Bār-Gāh Meñ  
Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Ke  
Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

22/233. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ:  
اللَّهُمَّ، إِنِّي أَحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Bara’ Bin Aazib RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabīye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasanayn Karimayn ﷺ Kee Taraf Dekh Kar Farmaya: Ae Allah! Main In Se Mahabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Mahabbat Kar.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

23/234. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَرَفْتُ النَّبِيَّ ﷺ. ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي  
بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيَّ شَيْءٍ لَا أُدْرِي مَا

AL-HADITH RAQM 22: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/661,  
RAQM-3782.

AL-HADITH RAQM 23: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/656,  
RAQM-3769,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/423, RAQM-6967,



هُوَ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟  
 قَالَ: فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيَّ وَرِكَيهِ فَقَالَ:  
 هَذَانِ ابْنَايَ وَأَبْنَاؤُ ابْنَتِي. اللَّهُمَّ، إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَ أَحَبَّ مَنْ  
 يُحِبُّهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Usamah Bin Zayd RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Unhone Farmaya: Main Ek Raat Kisi Kaam Ke Liye Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men Haazir Huwa Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Baahar Tashrif Laa’e Aur Aap Kisi Cheez Ko Apne Jism Se Chimtaa’e Huwe The Jis Main Na Jaan Saka Jab Main Apne Kaam Se Faarigh Huwa To Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Ne Kya Cheez Chimta Rakhi Hai? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kapda Uthaaya To Woh Hasan Aur Husayn The. Farmaya: Yeh Mere Bete Hain. Ae Allah! Main In Se Mahabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Mahabbat Kar Aur In Se Mahabbat Karne Waale Se Bhi Mahabbat Kar.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

24/235. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي ابْنَيْ فَيْشُمَهُمَا وَيَضُمَّهُمَا إِلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Arz Kiya Gaya: Aap Ko Ahle Bait Men Se Sab Se Ziyaada Kaun Mahboob Hai? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hasan Aur Husayn, Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hazrat Fatimah Se Kaha Karte The Ki Mere Beto’n Ko Bulaa’o Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Unhe’n Choomte Aur Unhe’n Apne Saath Lipta Lete.’

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Aboo Ya’la Ne Riwayat Kiya Hai.

25/236. عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَ

---

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/657, RAQM-3772,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 07/274, RAQM-4294.

AL-HADITH RAQM 25: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/658, RAQM-3774,

NASA’I FI AS-SUNAN, 03/192, RAQM-I558,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/345,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 13/403, RAQM-6039,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 03/218, RAQM-5610.

يَعْتِرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ،  
ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) فَنَظَرْتُ إِلَيَّ هَذَيْنِ  
الصَّبِيِّينِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتِرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا.  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Aboo Buraydah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam عليهما السلام Tashrif Laa’e, Unhone Surkh Rang Kee Qamis Pehni Hu’i Thi Aur Woh (Kam Umr Hone Kee Waj’h Se) Ladkhada Kar Chal Rahe The. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam (Unhe’n Dekh Kar) Mimbar Se Neeche Tashrif Le Aa’e, Dono’n (Shahzaadon) Ko Uthaaya Aur Apne Saamne Bitha Liya, Phir Farmaya: Allah Ta’ala Ka Farman Kitna Sach Hai ; “Be-Shak Tumhare Amwaal Aur Tumhaari Aulaad Aazmaa’ish Hee Hain” Main Ne In Bachchon Ko Ladkhada Kar Chalte Dekha To Mujh Se Raha Na Gaya Hatta Ki Main Ne Apni Baat Kaat Kar Inhe’n Utha Liya.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidai Aur Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Hai Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

26/237. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
فِي إِحْدَى صَلَوَاتِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ

فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً  
 أَطَالَهَا. قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَيَّ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَيَّ سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ،  
 قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً  
 أَطَلَّتْهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْكَ. قَالَ: ذَلِكَ لَمْ  
 يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. رَوَاهُ  
 النَّسَائِيُّ وَ أَحْمَدُ.

“Hazrat Abd Allah Bin Shaddad RadiyAllahu ‘Anhuma Apne Waalid Hazrat Shaddad Bin Haad RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ishaah Kee Namaaz Ada Karne Ke Liye Hamaare Paas Tashrif Laa’e Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hasan Ya Husayn ﷺ (Main Se Kisi Ek Sahib-Zade) Ko Uthaa’e Huwe The. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Tashrif Laa Kar Unhe’n Zameen Par Bitha Diya Phir Namaaz Ke Liye Takbir Farmaa’i Aur Namaaz Padhana Shuru’ Kar Dee, Namaz Ke Dauraan Huzoor SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Taweel Sajdah Kiya. Shaddad Ne Kaha: Main Ne Sar Uthaa Kar Dekha Ki Sahib-Zade Sajde Kee Haalat Men Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Pusht Mubarak Par Suwaar Hain. Main Phir Sajde Men Chala Gaya. Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi

---

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/493,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/380, RAQM-32191,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 07/270, RAQM-7107.

Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Namaz Ada Farma Chuke To Logo'n Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam! Aap Ne Namaz Men Itna Sajda Taweel Kiya. Yaha'n Tak Ki Ham Ne Gumaan Kiya Ki Koi Amre Ilaahi Waaq'e Ho Gaya Hai Ya Aap Par Wahy Naazil Hone Lagi Hai. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aisi Koi Baat Na Thi Magar Yeh Ki Mujh Par Mera Beta Suwaar Tha Is Liye (Sajde Se Uthne Men) Jaldi Karna Achchha Na Laga Jab Tak Ki Is Kee Khwaahish Poori Na Ho."

Is Hadith Ko Imam Nasa'i Aur Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

27/238. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَيَّ عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَيَّ عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلْتِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً وَيَلْتِمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

"Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hamaare Paas Tashrif Laa'e To Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Ek Kandhe Par Imam Hasan عليه السلام Aur Doosre

Kandhe Par Imam Husayn ﷺ Suwaar The. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Dono’n Ko Baari Baari Choom Rahe The Yaha’n Tak Ki Aap Hamaare Paas Aa Kar Ruk Ga’e, Ek Shakhs Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Kya In Se Mahabbat Karte Hain? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Ne In Dono’n Se Mahabbat Rakhi Us Ne Mujh Se Mahabbat Rakhi Aur Jis Ne In Se Bughz Rakha Us Ne Mujh Se Bughz Rakha.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Haakim Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

28/239. عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا أَقْبَلَا يَمْشِيَانِ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ يَدُهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَعَلَ يَدُهُ الْآخَرِي فِي عُنُقِهِ، فَقَبِلَ هَذَا ثُمَّ قَبِلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ya’la Bin Murrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hasanayn Karimayn ﷺ Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Taraf Chal Kar Aa’e, Pas Un Men Se Jab Ek Pahoncha To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apna Baazu’n Us Ke Gale Men Daala, Phir Doosra Pohuncha To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apna Doosra Baazu’n Us Ke Gale Men Daala, Baa’d Az-Aa’n Ek Ko Chooma Aur Phir Doosre Ko Chooma Aur Farmaya: Ae Allah! Main In Se Mahabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Mahhabat Kar.”

Is Hadith Ko Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

29/240. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، فَقَامَ فَرِعًا، فَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ لَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِمَا وَمَا أَعْقِلُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Yahya Bin Abi Kathir Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Hasan Aur Husayn ﷺ Ke Rone Kee Aawaaz Suni To Pareshaan Ho Kar Khade Ho Ga’e Aur Farmaya: Be-Shak Aulaaad Aazmaa’ish Hai, Main In Ke Liye Baghair Ghaur Kiye Khada Ho Gaya Hoo’n.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

30/241. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَمَرَّ عَلَيَّ فَاطِمَةَ فَسَمِعَ حُسَيْنًا يَبْكِي، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِنِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Yazid Bin Aboo Ziyaad RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwaayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Ke Ghar Se Baahar Tashrif Laa’e Aur Sayyidah Fatimah ﷺ Ke Ghar Ke Paas Se Guzre To Hazrat Husayn ﷺ Ko Rote Huwe Suna, Aap

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/379, RAQM-32186.

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/116, RAQM-2847.

SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya: Kya Tujhe Ma’loom Nahin Ki Is Ka Rona Mujhe Taklif Deta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

31/242. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، وَ هُمَا يَبْكِيَانِ وَ هُمَا مَعَ أُمَّهُمَا، فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى آتَاهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا: مَا شَأْنُ ابْنَيْ؟ فَقَالَتْ: الْعَطَشُ قَالَ: فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ شَنَّةً يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً. وَ كَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أُغْدَارًا، وَ النَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ. فَنَادَى: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ؟ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَيَّ كَلَابِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطْرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَاوِلْنِي أَحَدَهُمَا، فَنَاوَلْتَهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخَدْرِ، فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَيَّ صَدْرِهِ وَ هُوَ يَطْغُو مَا يَسْكُتُ، فَادَّلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمْصُهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً، وَ الْآخِرُ يَبْكِي كَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُ فَقَالَ: نَاوِلْنِي الْآخَرَ، فَنَاوَلْتَهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ، فَسَكَتَا فَمَا سَمِعَ لَهُمَا صَوْتًا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Main Gawaahi Deta Hoo’n Ki Ham Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath (Safar Men) Nikle, Abhi



Ham Raaste Men Hee The Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasan Wa Husayn ﷺ Kee Aawaaz Suni Dono’n Ro Rahe The Aur Dono’n Apni Waalidah Majidah (Sayyidah Fatimah) Ke Paas Hee The. Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Ke Paas Tezi Se Pahonche. Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Kehte Hain Ki Main Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Sayyidah Fatimah ﷺ Se Yeh Farmate Huwe Suna: Mere Beto’n Ko Kya Huwa? Sayyidah Fatimah ﷺ Ne Arz Kiya: Inhe’n Sakht Pyaas Lagi Hai. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Paani Lene Ke Liye Mashkeeze Kee Taraf Badhe. In Dinon Paani Kee Sakht Qillat Thi Aur Logo’n Ko Paani Kee Shadeed Zaroorat Thi. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Logo’n Ko Aawaaz Dee: Kya Kisi Ke Paas Paani Hai? Har Ek Ne Kajaawon Se Latakte Huwe Mashkeezo’n Men Paani Dekha Magar Un Ko Qatrah Tak Na Mila. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimah ﷺ Se Farmaya: Ek Bachcha Mujhe Do, Unhone Ek Ko Parde Ke Neeche Se Pakdaaya. Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Us Ko Pakad Kar Apne Seene Se Laga Liya Magar Woh Sakht Pyaas Kee Waj’h Se Musalsal Ro Raha Tha Aur Khaamosh Nahin Ho Raha Tha. Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Us Ke Moonh Men Apni Zubaan Mubaarak Daal Dee Woh Use Choosne Laga Hatta Ki Sairaabi Kee Waj’h Se Sukoon Men Aa Gaya Main Ne Do-Baarah Us Ke Rone Kee Aawaaz Na Suni, Jab Kee Doosra Bhi Usi Tarh (Musalsal Ro Raha Tha) Pas Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Doosra Bhi Mujhe De Do To Sayyidah Fatimah ﷺ Ne Doosre Ko Bhi Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Hawaale Kar Diya Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Us Se Bhi Wohi Mu’aamala Kiya (Ya’ni Zubaan Mubarak Us Ke

Moonh Men Daali) So Woh Dono'n Aise Khaamosh Huwe Ki Main Ne Do-Baarah Un Ke Rone Kee Aawaaz Na Suni.”

Is Hadith Ko Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai. -

32/243. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْقُ بِأَيْبِكَ أَنْتَ عَيْنَ بُقَّةٍ. وَأَخَذَ بِإِصْبَعِيهِ فَرَقِي عَلَيَّ عَاتِقِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الْآخَرُ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ مُرْتَفِعَةً إِحْدَى عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَرَحَبًا بِكَ ارْقُ بِأَيْبِكَ أَنْتَ عَيْنَ الْبُقَّةِ وَأَخَذَ بِإِصْبَعِيهِ فَاسْتَوَى عَلَيَّ عَاتِقِهِ الْآخَرَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Woh Farmate Hain Ki Ek Daf’a Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sayyidah Fatimah سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا Ke Ghar Ke Saamne Ruke To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Sayyidah Fatimat-uz-Zahra Ko Salam Kiya. Itne Men Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَّلَام Men Se Ek Shehzadah Ghar Se Baahar Aa Gaya Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Se Farmaya: Apne Baap Ke Kandhe Par Suwaar Ho Jaa Too (Meri) Aankh Ka Taara Hai, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Unhe’n Haath Se Pakda Pas Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Doshe Mubarak Par Suwaar Ho Ga’e. Phir Doosra Shehzadah Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee

Taraf Takta Huwa Baahar Aa Gaya To Use Bhi Farmaya: Khush Aamadid, Apne Baap Ke Kandhe Par Suwaar Ho Jaa Too (Meri) Aankh Ka Taara Hai Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Use Apni Ungliyon Ke Saath Pakda Pas Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Doosre Doshe Mubarak Par Suwaar Ho Ga’e.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

33/244. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ عَلَيَّ بَطْنِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ: وَمَالِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رِيحَانَتَايَ. رَوَاهُ الْبُزَّارُ.

“Hazrat Sa’d Bin Abi Waqqas RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Haazir Huwa To (Dekha Ki) Hasan Aur Husayn ﷺ Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Shikam Mubarak Par Khel Rahe The, To Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Kya Aap In Se Mahabbat Karte Hain? To Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main In Se Mahabbat Kyun Na Karoo’n Haala’n Ki Yeh Dono’n Mere Phool Hain.”

Is Hadith Ko Imam Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

34/245. عَنْ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهَا يَوْمًا فَقَالَ: أَيْنَ ابْنَايَ؟ فَقَالَتْ: ذَهَبَ بِهِمَا عَلِيٌّ فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرَبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِهِمَا فَضْلٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَلَا تَقْلِبُ ابْنَيْ قَبْلِ الْحَرِّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Sayyidah Fatimah سلام الله عليها Farmati Hain Ki Ek Roz Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mere Haa’n Tashrif Laa’e Aur Farmaya: Mere Bete Kaha’n Hain? Main Ne Arz Kiya: Hazrat Ali Radiyah ‘Anhu Un Ko Saath Le Ga’e Hain. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Kee Talaash Men Mutawajjeh Huwe To Unhe’n Paani Peene Kee Jagah Par Khelte Huwe Paaya Aur Un Ke Saamne Kuchh Khajooore’n Bachi Hu’i Thi. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Ali! Khayaal Rakhna Mere Beto’n Ko Garmi Shuru’ Hone Se Pehle Waapsa Le Aana.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

5. فَضْلٌ فِيمَنْ أَحَبَّهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ

الْجَنَّةَ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

﴿Allāh Ta‘ālā Kā Ḥasanayn Karīmayn ‘Alayhimā  
Al-Salām Se Maḥabbat Karne Wāloñ Ko Jannat  
Aur Āp Se Buḡhẓ Rakhne Wāloñ Ko Dozaḡh Meñ  
Dāḡhil Karne Kā Bayān﴾

35/246. عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَسَنُ  
وَالْحُسَيْنُ ابْنَايَ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ  
اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ،  
وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain  
Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi  
Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Hasan Aur Husayn Mere Bete  
Hain Jis Ne Hasan Aur Husayn ﷺ Se Mahabbat Kee, Us Ne Mujh  
Se Mahabbat Kee, Aur Jis Ne Mujh Se Mahabbat Kee Us Se Allah Ne  
Mahabbat Kee Aur Jis Se Allah Ne Mahabbat Kee Allah Ne Use Jannat  
Men Daakhil Kar Diya. Jis Ne Hasan Aur Husayn ﷺ Se Buḡhẓ

Rakha Us Ne Mujh Se Bughz Rakha, Aur Jis Ne Mujh Se Bughz Rakha Us Par Allah Ka Ghazab Huwa Aur Jis Par Allah Ka Ghazab Huwa Allah Ne Use Aag Men Daakhil Kar Diya.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

36/247. عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّبْتُهُ، وَمَنْ أَحَبَّبْتُهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasan Wa Husayn عليهما السلام Ke Liye Farmaya: Jis Ne Un Se Mahabbat Kee Us Se Main Ne Mahabbat Kee, Aur Jis Se Main Mahabbat Karoo’n Us Se Allah Mahabbat Karat Hai, Aur Jis Ko Allah Mahboob Rakhta Hai Use Ni’mato’n Waali Jannato’n Men Daakhil Karta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

37/248. عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: مَنْ أَبْغَضَهُمَا أَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا أَبْغَضْتُهُ، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

---

AL-HADITH RAQM 36: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/50, RAQM-2655.

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/50, RAQM-2655.

“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hasan Aur Husayn ﷺ Ke Baare Men Farmaya: Jis Ne In Se Bughz Rakha Ya In Se Baghaawat Kee Woh Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Aur Jo Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Woh Allah Ke Ghazab Ka Shikaar Ho Gaya Aur Jo Allah Ke Haa’n Ghazab Yaafta Ho Gaya To Allah Ta’ala Use Jahannam Ke Azaab Men Daakhil Karega (Jaha’n) Us Ke Liye Hamesha Ka Thikaana Hoga.”

Is Hadith Ko Imaam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

38/249. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَنَا وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ مُجْتَمِعُونَ، وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main, Fatimah, Hasan, Husayn Aur Jo Ham Se Mahabbat Karte Hain Qiyamat Ke Din Ek Hee Maqaam Par Jam’a Honge, Hamaara Khaana Peena Bhi Iktha Hoga Taa’n Ki Log (Hisaab-o Kitaab Ke Baa’d) Juda-Juda Kar Diye Jaa’enge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

## 6. فَضْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ

﴿Hasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Ke  
Jannat Mein Maqām-o Martabah Kā Bayān﴾

39/250. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَسَنُ  
وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ زَادَ: وَ أَبُوهُمَا خَيْرٌ

مِنْهُمَا

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hasan Aur Husayn Jannati Jawaano’n Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Ibn Majah Ne Is Ko Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Kiya Hai Aur Yeh Izaafah Kiya Hai Ki Un Ke Waalid Un Se Behtar Hain.

---

AL-HADITH RAQM 39: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/656,

RAQM-3768,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 01/44, RAQM-II8,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/50, RAQM-8169,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 15/412, RAQM-6959,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/03, RAQM-II012,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/378, RAQM-32176.



40/251. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَسَدَ النَّاسِ إِيَّايَ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali Bin Abi Talib RadiyAllahu ‘Anhuma Farmate Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Shikaayat Kee Ki Log Mujh Se Hasad Karte Hain, To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Tum Is Baat Par Raazi Nahin Ho Ki Jannat Men Sab Se Pehle Daakhil Hone Waale Chaar-04 Mardo’n Men Chawthe Tum Ho (Woh Chaar-04) Main, Tum, Hasan Aur Husayn Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

41/252. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: أَنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَجِبُونَا؟ قَالَ: مِنْ وَرَائِكُمْ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe

---

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/624,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 01/319, RSQAM-950.

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/164, RAQM-4723.

Bataaya Ki Sab Se Pehle Jannat Men Daakhil Hone Waalo'n Men, Main (Ya'ni Hazrat Ali RadiyAllahu 'Anhu Khud), Fatimah, Hasan Aur Husayn Hain. Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Ham Se Mahabbat Karne Waale Kaha'n Honge? Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhaare Pichhe-Pichhe.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Is Kee Hadise Isnaad Sahih Hain.

42/253. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنِّي وَإِيَّاكَ وَهَذَا النَّائِمَ يَعْنِي: عَلِيًّا وَهُمَا يَعْنِي: الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ لَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sayyidah Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Ke Ghar Tashrif Laa'e Aur Farmaya: Main, Tum Aur Yeh Sone Waala (Ya'ni Ali Woh Abhi So Kar Utthe Hee The) Aur Yeh Dono'n Ya'ni Hasan Aur Husayn عَلَيْهِمَا السَّلَام Qiyamat Ke Din Ek Hee Jagah Honge.”

---

AL-HADITH RAQM 42: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/101, RAQM-792,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 03/147, RAQM-4664,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 22:405, RAQM-1016.

---

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Kaha Ki Is Hadith Kee Isnaad Sahih Hain.

43/254. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ شَفَا الْعَرْشِ وَ لَيْسَا بِمُعَلَّقَيْنِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنَنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ قَالَ: أَوْلَمَ أَزَيَّنْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ؟  
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Uqbah Bin Aamir RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hasan Aur Husayn Ars Ke Do-02 Sutoon Hain Lekin Woh Latke Huwe Nahin Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jab Ahle Jannat, Jannat Men Muqim Ho Jaa’enge To Jannat Arz Karegi: Ae Parwardigaar! Too Ne Mujhe Apne Sutoonon Men Se Do-02 Sutoonon Se Muzayyan Karne Ka Waa’dah Farmaya Tha. Allah Ta’ala Ne Farma’ega: Kya Main Ne Tujhe Hasan Aur Husayn Kee Maujoodagi Ke Zari’e Muzayyan Nahin Kar Diya? (Yahi To Mere Do-02 Sutoon Hain).’

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

44/255. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي، فَاسْتَأْذَنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي زِيَارَتِي، فَبَشَّرَنِي: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aasmaan Ke Ek Firishte Ne (Is Se Pehle) Meri Ziyaarat Kabhi Nahin Kee Thi, Us Ne Meri Ziyaarat Ke Liye Allah Ta’ala Se Ijaazat Talab Kee Aur Mujhe Yeh Khush-Khabari Sunaa’i Ki Hasan Aur Husayn Tamam Jannati Jawaano’n Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

45/256. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَرَّتِ الْجَنَّةُ عَلَيَّ النَّارِ فَقَالَتْ: أَنَا خَيْرٌ مِنْكَ، فَقَالَتْ النَّارُ: بَلْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكَ، فَقَالَتْ لَهَا الْجَنَّةُ اسْتَفْهَمَا: وَمِمَّه؟ قَالَتْ: لِأَنَّ فِيَّ الْجَبَابِرَةَ وَنَمْرُودَ وَفِرْعَوْنَ فَأَسْكَنْتُ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا: لَا تَخْضَعِينَ، لِأَزِينَنَّ رُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَمَا سَتَ كَمَا تَمِيسُ الْعُرُوسُ فِي خِدْرِهَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Bayaan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam

---

AL-HADITH RAQM 44: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA,  
05/146, RAQM-8515,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/36, RAQM-02, 604.

AL-HADITH RAQM 45: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-  
AWSAT, 07/148, RAQM-7120.

Ne Farmaya: Ek Martaba Jannat Ne Dozakh Par Fakhr Kiya Aur Kaha Main Tum Se Behtar Ho'n, Dozakh Ne Kaha: Main Tum Se Behtar Hoo'n. Jannat Ne Dozakh Se Poochha Kis Waj'h Se? Dozakh Ne Kaha: Is Liye Ki Mujh Men Bade-Bade Jaabir Hukmara'n Fir'awn Aur Namrood Hain. Is Par Jannat Khaamosh Ho Ga'i, Allah Ta'ala Ne Jannat Kee Taraf Wahyi Kee Aur Farmaya: Too Aajiz Wa Laa-Jawaab Na Ho, Main Tere Do-02 Sutoonon Ko Hasan Aur Husayn Ke Zari'e Muzayyan Kar Dunga. Pas Jannat Khushi Aur Suroor Se Aisi Sharma Ga'i Jaise Dulhan Sharmati Hai."

Is Hadith Ko Imam Nasa'i Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

## 7. فَضْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِمَا وَمَنَاقِبِهِمَا عَلَيْهِمَا

### السَّلَامُ

﴿Hasanayn Karīmayn ‘Alayhimā Al-Salām Kī

Jāme‘ Şifāt Aur Manāqib Kā Bayān﴾

46/257. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hasan Aur Husayn عليهما السلام Ke Liye (Khusoosi Taur Par) Kalimate Ta’awwudh Ke Saath Dam Farmate The Aur Farmate Ki Tumhare Jadde Amzad (Ibrahim عليه السلام Bhi) Apne Dono’n Saahibzaadon Ismai’l Wa Is’haq (عليهما السلام) Ke Liye In Kalimaat Ke Saath Ta’awwudh Karte The: Main Allah Ta’ala Ke Kaamil Kalimaat Ke Zari’e Har (Waswasa’e Andaazi Karne Waale) Shaytaan Aur Bala Se Aur Har Nazare Bad Se Panaah Mangta Hoo’n.”

AL-HADITH RAQM 46: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1233,  
RAQM-3191,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/235, RAQM-4737,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1164, RAQM-3525.

Is Hadith Ko Imam Bukhari, Aboo Dawud Aur Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

47/258. عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ نُجْبَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نَجَبَاءَ أَوْ نَقَبَاءَ، وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ. قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَابُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادُ وَ حُدَيْفَةَ وَ عَمَّارٌ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Musayyab Bin Najabah RadiyAllahu ‘Anhu Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Har Nabi Ko Saat-07 Najib Ya Naqib Ata’ Kiye Ga’e Jab Ki Mujhe Chawdah-14 Naqib Ata’ Kiye Ga’e. Raawi Kehte Hain Ki Ham Ne Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Poochha Ki Woh Kaun Hain? To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Bataaya: Main, Mere Dono’n Bete, Ja’far, Hamzah, Aboo Bakr, Umar, Mus’ab Bin Umayr, Bilaal, Salman, Miqdad, Hudhayfah, Ammar Aur Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhum Ajma’in.”

AL-HADITH RAQM 47: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/662,

RAQM-3785,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/142, RAQM-1205,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 01/189, RAQM-244,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 06/215, RAQM-6047.

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

48/259. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Hasan Seene Se Sar Tak Rasool Allah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Kaamil Shabih The Aur Hazrat Husayn Seene Se Neeche Tak Huzoor SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Kaamil Shabih The.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 48: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/660,

RAQM-3779,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/99, RAQM-774,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/430, RAQM-6974,

TAYALISI FI AL-MUSNAD, 01/91, RAQM-130.



49/260. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَوْ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَيَّ بَطْنِهِ، قَالَ: وَيَقُولُ: رِيحَانَتِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargaha Aqdas Men Haazir Hota Ya (Farmaya) Aksar Auqaat Haazir Hota (Aur Dekhta Ki) Hasan Wa Husayn عليهما السلام Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Shikam Mubarak Par Lot-Pot Ho Rahe Hote Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farma Rahe Hote: Yeh Dono’n Hee To Meri Ummat Ke Phool Hain.

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

50/261. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَاذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيَّ ظَهْرِهِ، فَاذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا، فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Namaz Ada Farma Rahe The, Jab Sajde Men Ga’e To

---

AL-HADITH RAQM 49: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/49, 150, RAQM-8167, 8529.

AL-HADITH RAQM 50: AKHRAJAHU AL-NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/50, RAQM-8170.

Hasanayn Karimayn ﷺ Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Pushte Mubarak Par Suwaar Ho Ga’e, Jab Logo’n Ne Unhe’n Rokna Chaaha To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Logo’n Ko Ishaarah Farmaya Ki Inhe’n Chhod Do Ya’ni Suwaar Hone Do, Phir Jab Namaz Ada Farma Chuke To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Dono’n Ko Apni God Men Le Liya.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

51/262. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: أَنَا وَحَمْرَةَ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Ki Ham Hazrat Abd-ul-Muttalib Kee Aulaad Ahle Jannat Ke Sardaar Hain Jin Men Main, Hamzah, Ali, Ja’far, Hasan, Husayn Aur Mahdi Shaamil Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

52/263. عَنْ أَبِي الْمَعْدِلِ عَطِيَّةِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي يَوْمًا إِذْ قَالَ الْخَادِمُ: إِنَّ عَلِيًّا وَ

---

AL-HADITH RAQM 51: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1368, RAQM-4087,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/233, RAQM-4940.

AL-HADITH RAQM 52: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/296, RAQM-26582.

فَاطِمَةَ بِالسَّدَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي: قَوْمِي فَتَنَحِّي لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي،  
 قَالَتْ: قُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَ فَاطِمَةَ وَ مَعَهُمَا  
 الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ هُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيِّنِ فَوَضَعَهُمَا فِي  
 حِجْرِهِ فَتَقَبَّلَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Aboo Ma’dil Atiyyah Tafaawi RadiyAllahu ‘Anhu Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Unhe’n Ummu Al-Mu’minin Hazrat Umme Salmah RadiyAllahu ‘Anha Ne Bayaan Kiya Ki Ek Din Jab Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mere Ghar Tashrif Farma The Ek Khaadim Ne Arz Kiya: Darwaaze Par Ali Aur Fatimah عليهما السلام Aa’e Hain. Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Bayaan Karti Hain: Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hukm Farmaya: Ek Taraf Ho Jao Aur Mujhe Apne Ahle Bait Se Milne Do. Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain: Main Paas Hee Ghar Men Ek Taraf Hat Kar Khadi Ho Ga’i, Pas Ali, Fatimah Aur Hasanayn Karimayn عليهم السلام Daakhil Huwe Us Waqt Woh Kamsin The To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Dono’n Bachchon Ko Pakad Kar God Men Bitha Liya Aur Dono’n Ko Choomne Lage.”

Is Hadith Ko Imaam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

53/264. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَيَّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِعِمَّتِ الْمَطِيَّةُ قَالَ: وَنِعَمَ الرَّكِيبَانِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Aboo Ja’far RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ek Martaba Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hasanayn Karimayn عليهما السلام Ko Uthaa’e Huwe Ansaar Kee Ek Majlis Se Guzre To Unhone Kaha: Ya RasoolAllah ﷺ! Kyaa Khoob Suwaari Hai! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Suwaar Bhi Kya Khoob Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

54/265. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا لَا يَجِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِحَبْنٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوا.  
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

“Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Khabardaar! Yeh Masjid Kisi Junubi Aur Haaiza Ke Liye Halaal Nahin, Siwaa’e RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam, Ali, Fatimah, Hasan Aur Husayn عليهم الصلوٰة والسلام Ke. In

---

AL-HADITH RAQM 53: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/380, RAQM-32185.

AL-HADITH RAQM 54: AKHRAJAHU AL-BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/65, RAQM-I3178, I3179.

Barguzidah Hastiyo'n Ke Ilaawah Kisi Ke Liye Masjide Nabawi Men Haalate Janabat Men Masjid Men Aana Jaa'iz Nahin, Aagaah Ho Jaa! Main Ne Tumhe'n Naam Bata Diye Hain Taa'n Ki Tum Gumrah Na Ho Jaa."

Is Hadith Ko Imam Bayhaqi Ne Riwayat Kiya Hai.

55/266. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ أَشْبَهَ النَّاسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَيَّ وَجْهِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ أَشْبَهَ النَّاسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَيَّ كَعْبِهِ خَلْقًا وَ لُونًا فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Jis Shakhs Kee Yeh Khwaahish Ho Ki Woh Logo'n Men Aisi Hasti Ko Dekhe Jo Gardan Se Chehre Tak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Sab Se Kaamil Shabih Ho To Woh Hazrat Hasan Bin Ali Ko Dekh Le Aur Jis Shakhs Kee Yeh Khwaahish Ho Ki Woh Logo'n Men Aisi Hasti Ko Dekhe Jo Gardan Se Takhne Tak Rangat Aur Soorat Dono'n Men Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Sab Se Kaamil Shabih Ho To Woh Hazrat Husayn Bin Ali Ko Dekh Le.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

56/267. عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَسَنِ وَحُسَيْنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنَاكَ فَوَرِّثَهُمَا شَيْئًا فَقَالَ لَهَا: أَمَّا حَسَنٌ فَإِنَّ لَهُ نِيبَاتِي وَسُودَدِي، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ حُرَامَتِي وَجُودِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Raafi’ RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Sayyidah Fatimah رضي الله عنها Huzoor Nabiyee Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Maraze Wisaal Men Apne Dono’n Beton Ko Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Men Laae’n Aur Arz-Guzaar Hu’in Ki Yeh Aap Ke Bete Hain Inhe’n Kuchh Wiraasat Men Ata’ Farmaen. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hasan Ke Liye Meri Saabit Qadam Aur Sardaari Kee Wiraasat Hai Aur Husayn Ke Liye Meri Taaqat-o Sakhaawat Kee Wiraasat.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

57/268. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهَا أَتَتْ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شِكْوَتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَقَالَتْ: تَوَرِّثُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَيْئًا فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُودَدِي، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

AL-HADITH RAQM 56: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 06/222.

AL-HADITH RAQM 57: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/423, RAQM-IO41.

“Hazrat Sayyidah Fatimah عليها السلام Se Riwayat Hai Ki Woh Apne Baaba Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Maraze Wisaaal Ke Dauraan Hasan Aur Husayn Ko Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Men Laa’in Aur Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Inhe’n Apni Wiraasat Men Se Kuchh Ata’ Farmaen. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Hasan Meri Haibat Wa Sardaari Ka Waaris Hai Aur Husayn Meri Jur’at Wa Sakhaawat Ka.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

58/269. عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليك وسلم، لَقَدْ ضَلَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، قَالَ: وَ ذَلِكَ رَأَى النَّهَارِ يَقُولُ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَوْمُوا فَاطِبُوا ابْنِي. قَالَ: وَ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ تَجَاهَ وَجْهِهِ، وَ أَخَذْتُ نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَتَى سَفْحَ جَبَلٍ وَ إِذَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ مُلْتَزِقٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ، وَ إِذَا شَجَاعٌ قَائِمٌ عَلَي ذَنْبِهِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شِبْهُ النَّارِ، فَاسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَالْتَفَتَ مُخَاطِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ انْسَابَ فَدَخَلَ بَعْضُ الْأَحْجَرَةِ، ثُمَّ آتَاهُمَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُمَا وَ قَالَ: بِأَبِي وَ أُمِّي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَي اللَّهِ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Salman Farisi RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Ham Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas The. Hazrat Umme Ayman Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Aae’n Aur Arz Kiya: Hasan Wa Husayn ﷺ Gum Ho Ga’e Hain. Raawi Kehte Hain Din Khoob Nikla Huwa Tha. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Chalo Mere Beto’n Ko Talaash Karo, Raawi Kehte Hai Har Ek Ne Apna-Apna Raasta Liya Aur Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Chal Pada, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Musalsal Chalthe Rahe Hatta Ki Pahaad Ke Daaman Tak Pahonch Ga’e (Dekha Ki) Hasan Aur Husayn ﷺ Ek Doosre Ke Saath Chimte Huwe Hain Aur Ek Azdaha Apni Dum Par Khada Hai Aur Us Ke Moonh Se Aag Ke Sho’le Nikal Rahe Hain. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Us Kee Taraf Tezi Se Badhe To Woh Azdaha Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Taraf Mutawajjeh Ho Kar Sikud Gaya Phir Khisak Kar Paththro’n Men Chhup Gaya Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hasanayn Karimayn ﷺ Ke Paas Tashrif Laa’e Aur Dono’n Ko Alag-Alag Kiya Aur Un Ke Chehro’n Ko Ponchha Aur Farmaya: Mere Maa-Baap Tum Par Qurbaan, Tum Allah Ke Haa’n Kitni Izzat Waale Ho.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai



59/270. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَمْشِي عَلَيَّ أَرْبَعَةَ، وَ عَلَيَّ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُوَ يَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمْ، وَ نِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Jaabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Main Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Haazir Huwa To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Chaar-04 Taango’n (Ghutano’n Aur Dono’n Haatho’n Ke Bal) Par Chal Rahe The Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Pusht Mubarak Par Hasanayn Karimayn Sawaar The Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farma Rahe The: Tumhaara Oont Kya Khoob Hai Aur Tum Dono’n Kya Khoob Suwaar Ho.”

Is Hadith Ko Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

60/271. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: أَنَا شَجَرَةٌ، وَ فَاطِمَةُ حَمَلُهَا، وَ عَلَيٌّ لِقَاحُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَقُّهَا، مِنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Se Marfu’an Hadith Marwi Hai Ki Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Darakht Hoo’n, Fatimah Is Kee Tehni Hai, Ali Is Ka Shigoofa Aur Hasan Wa Husayn Is

---

AL-HADITH RAQM 59: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 03/52, RAQM-661.

AL-HADITH RAQM 60: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/52, RAQM-135.

Ka Phal Hain Aur Ahle Bait Se Mahabbat Karne Waale Is Ke Patte Hain, Yeh Sab Jannat Men Honge, Yeh Haq Hai Haq Hai.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai

al-Bābu al-Ḳhāmisu:

مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

﴿Ummahātu al-Mu'minīn Raḍiya  
Allāhu 'Anhunna Ke Manāqib﴾

# 1. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Ḳhadījah Rādiya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

1./272. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلِيَّ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا غَرْتُ عَلِيَّ خَدِيجَةَ، هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَ أَمْرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥazrat Aa'ishah Siddiqah RādiyAllahu 'Anha Farmati Hain Ki Main Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Ajwaaze Mutahharaat Men Se Kisi Par Itna Rashk Nahin Karti Jitna Ḥazrat Ḳhadījah RādiyAllahu 'Anha Par, Hala'n Ki Woh Mere Nikaah Se Pehle Hee Wafaat Paa Chuki Thi'n, Lekin Main Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Un Ka (Kasrat Se) Zikr Farmate Huwe Sunti Thi Ki Allah Ta'ala Ne Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Hukm Farmaya Ki Ḳhadījah Ko Motiyon Ke Mahal Kee Bashaarat De Dijiye Aur Jab Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1388,

RAQM-3605,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1888, RAQM-2435,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/58, RAQM-24355,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/307, RAQM-I4574.

Ala Aalihi Wa-Sallam Koi Bakri Zab'h Farmate To Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Kee Saheliyon Ko Itna Gosht Bhejte Jo Unhe'n Kifaayat Kar Jaata."

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

2/273. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Hazrat Jibar'il عليه السلام Aa Kar Arz-Guzaar Huwe: Ya RasoolAllah ﷺ! Yeh Khadija Hain Jo Ek Bartan Le Kar Aa Rahin Hain Jis Men Saalan Aur Khaane Peene Kee Cheeze'n Hain, Jab Yeh Aap Ke Paas Aae'n To Inhe'n Un Ke Rabb Ka Aur Mera Salaam Kahiye Aur Inhe'n Jannat Men Motiyon Ke Mahal Kee Bashaarat De Dijiyee, Jis Men Na Koi Shor Hoga Aur Na Koi Taklif Hogi."

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1389,

RAQM-3609,

MUSLIM FI AS-SAHIH,04/1887, RAQM-2432,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/390, RAQM-32287.

3/274. عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيجَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَيِّتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Isma’il Se Marwi Hai Ki Hazrat Abd Allah Bin Awfa RadiyAllahu ‘Anhu Se Poochha Gaya Ki Kya Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ko Bashaarat Dee Thi? Unhone Jawaab Diya, Haa’n, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n (Jannat Men) Aise Mahal Kee Bashaarat Dee Thi Jo Motiyon Se Bana Hoga Aur Us Men Na Shor-o Ghul Hoga Aur Na Koi Aur Taklif Hogi.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

4/275. عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرِيْمٌ وَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Ali RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne

---

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1389, RAQM-3608,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1887, RAQM-2433,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/390, RAQM-32288.

AL-HADITH RAQM 4: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1388, RAQM-3604,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1886, RAQM-2430,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/390, RAQM-32289.

Farmaya: Apne Zamaane Kee Sab Se Beh-Tareen Aurat Maryam Hain Aur (Isi Tarh) Apne Zamaane Kee Sab Se Beh-Tareen Aurat Khadijah Hain.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

5/276. عَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتِ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ  ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هَالَةَ، قَالَتْ: فَعَرْتُ فَقُلْتُ: مَا تَذَكَّرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشُّدْقَيْنِ، هَلَكْتَ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Se Riwayat Hain Ki Hazrat Khadijah RadiyAllahu 'Anha Kee Bahan Haalah Bint Khuwaylid Ne RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Andar Aane Kee Ijaazat Talab Kee To Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Use Hazrat Khadijah RadiyAllahu 'Anha Ka Ijaazat Talab Karna Samajh Kar Kuchh Larzah Bar'andaam Se Ho Ga'e. Phir Farmaya: Khudaaya!” Yeh To Haala'n Hai. Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain Ki Mujhe Rashk Huwa. Pas Main Arz-Guzaar Hu'i Ki Aap Quraysh Kee Ek Surkh Rukhsaron Waali Budhiya Ko Itna Yaad Farmate Rehte Hain, Jinhe'n Faut Huwe

---

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1389,  
RAQM-3610,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1889, RAQM-2437,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/307, RAQM-I4573.

Bhi Ek Zamaana Beet Gaya Hai Kya Allah Ta'ala Ne Aap Ko Un Ka Ne'mul-Badal Ata' Nahin Farma Diya Hai?"

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

6/277. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرَّتْ عَلَيَّ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غَرَّتْ عَلَيَّ خَدِيجَةَ، وَ مَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْتَرُ ذِكْرَهَا وَ رَبِّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَ كَانَتْ وَ كَانَ لِي مِنْهَا وَكِدٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Mujhe Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Kisi Zaujah Mutahharah Par Itna Rashk Nahin Aata Jitna Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Par, Haala’n Ki Main Ne Unhien Dekha Nahin Hai, Lekin Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aksar Un Ka Zikr Farmate Rehte The Aur Jab Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Koi Bakri Zab’h Farmate To Us Ke Aazaa’ Ko Alaahidah Alaahidah Kar Ke Unhe’n Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Kee Milne Waali Aurato’n Ke Haa’n Bhejte. Kabhi Main Itna Arz Kar Deti Ki Dunya Men Kya Hazrat Khadijah Ke Siwa Koi Aurat Nahin Hai? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmate: Haa’n Woh Aisi Hee Yagaana’e Rozgaar Thi’n Aur Meri Aulaad Bhi Un Se Hai.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.



7/278. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرَّتْ عَلَيَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَيَّ خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: أَرْسَلُوا بِهَا إِلَيَّ أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ. قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي قَدْ رَزَقْتُ حُبَّهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaje Mutahharaat Men Se Kisi Par Rashk Nahin Kiya, Siwaa’e Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ke (Ya’ni Main Un Par Rashk Kiya Karti Thi) Aur Main Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Zamaana Nahin Paaya. Sayyidah Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Bhi Bakri Zab’h Karte The To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmate Ke Is Ka Gosht Hazrat Khadijah Kee Saheliyon Ke Haa’n Bhej Do. Sayiidah Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Main Ek Din Ghusse Men Aa Ga’i Aur Main Ne Kaha: Khadijah, Khadijah Hee Ho Raha Hai. To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Farmaya Ki Khadijah Kee Mahabbat Mujhe Ata’ Kee Ga’i Hai.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

8/279. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيَّ خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Kee Maujoodagi Men Doosri Shaadi Nahin Farmaa’i Yaha’n Tak Ki Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Intiqaal Ho Gaya.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

9/280. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِيَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ مَا غَرْتُ عَلِيَّ خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَ مَا رَأَيْتُهَا قَطُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Azwaaje Mutahharaat Men Se Kisi Aurat Par Itna Rashk Nahin Kiya Jitna Ki Main Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Par Rashk Kiya Hai Kyun Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Ka Kasrat Se Zikr Farmaya Karte The Haala’n Ki Main Ne Un Ko Kabhi Nahin Dekha Tha.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 8: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1889, RAQM-2436,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/205, RAQM-4855,

ABD BIN HUMAYD FI AL-MUSNAD, 01/429, RAQM-1475.

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1889, RAQM-2435.

10/281. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غُرْتُ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مَا غُرْتُ عَلَيَّ خَدِيجَةَ وَ لَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ. لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَيَّ خَالِئِلَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Sayyidah Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Main Ne Kisi Aurat Par Is Qadr Rashk Nahin Kiya Jis Qadr Ki Main Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Par Rashk Kiya Aur Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Meri Shaadi Se Teen Saal Pehle Wafaat Paa Chuki Thi’n (Aur Main Yeh Rashk Us Waqt Kiya Karti Thi) Ki Jab Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Zikr Farmaya Karte The Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Parwardigaar Ne Hukm Farmaya Ki Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ko Jannat Men Kholdaar Motiyon Se Bane Huwe Ghar Kee Khush-Khabari De Do Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Bhi Bakri Zab’h Karte The To Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Kee Saheliyon Ko Gosht Bheja Karte The.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

11/282. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.  
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhaare (Ittiba’-o Iqitida’ Karne Ke) Liye Chaar Aurate’n Hee Kaafi Hain. Maryam Bint Imran, Khadijah Bint Khuwaylid, Fatimah Bint Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Fir’awn Kee Biwi Aasiyah.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Woh Farmate Hain Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

12/283. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّيِّعِ بِمَالٍ، وَ

AL-HADITH RAQM II: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/702, RAQM-3878,

AHMAD FI AL-MUSNAD, 03/135, RAQM-I24I4,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 15/464, RAQM-7003,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/17I, RAQM-4745.

AL-HADITH RAQM I2: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/62, RAQM-2692,

AHMAD FI AL-MUSNAD, 06/276, RAQM-26405,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 22/428, RAQM-IO50.

بَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلِيٌّ أَبِي الْعَاصِ.  
 قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ  
 تُطْلِقُوا لَهَا أُسَيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بَيْطُنٍ يَأْجِجُ حَتَّى  
 تَمُرَّ بِكُمْ زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Jab Makkah Mukarramah Waalo’n Ne Apne Qaidiyon Ka Fidyah Bheja To Hazrat Zaynab (Bint RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam) Ne Bhi Aboo Al-Aas Ke Fidiye Men Maal Bheja Jis Men Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Woh Haar Bhi Tha Jo Unhe’n (Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Kee Taraf Se) Jahez Men Mila Tha Jab Aboo Al-Aas Se Un Kee Shaadi Hu’i Thi. Jab RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Us Haar Ko Dekha To Farte Gham Se Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Dil Bhar Aaya Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Badi Riqqat Taari Ho Ga’i Farmaya: Agar Tum Munaasib Samjhon To Is (Hazrat Zaynab) Ke Qaidi Ko Chhod Diya Jaa’e Aur Us Ka Maal Use Waapas De Diya Jaa’e? Logo’n Ne Isbaat Men Jawaab Diya. RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Us (Aboo Al-Aas) Se Ahd-o Paimaan Liya Ki Zaynab Ko Aane Se Nahin Rokega Chunancheh RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Zayd Bin Harithah Aur Ek Ansaari Ko Bheja Ki Tum Ya’jaj Ke Maqaam Par Rehna Yaha’n Tak Ki

Zaynab Tumhaare Paas Aa Pahonche. Pas Use Saath Le Kar Yaha'n Aa Pahonchana.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

13/284. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ خَدِيجَةٌ قَالَتْ:  
إِنَّ اللَّهَ يُقَرِّئُ خَدِيجَةَ السَّلَامِ. فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ  
السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرِيِّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hazrat Jibra’il ﷺ Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Aa’e Dar-Aa’n-Haale-Ki Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Bhi Us Waqt Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Moujood Thi’n. Hazrat Jibra’il ﷺ Ne Farmaya: Be-Shak Allah Ta’ala Hazrat Khadijah Par Salam Bhejta Hai Is Par Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ne Farmaya: Be-Shak Salam Allah Ta’ala Hee Hai Aur Jibra’il ﷺ Par Salamati Ho Aur Aap Par Bhi Salamati Ho Aur Allah Kee Rahmat Aur Us Kee Barakaat Ho’n.”

Is Hadith Ko Imam Nasa'i Ne "As-Sunan-ul-Kubra" Men Aur Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Woh Farmate Hain Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

14/285. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: حَدِيثَةَ بِنْتُ حُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةَ بِنْتُ مَزَاحِمٍ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، وَمَرِيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

"Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Farmate Hain Ki Ek Daf'a Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Zameen Par Chaar Khutoot Khinche Aur Daryaft Farmaya; Kya Tum Jaante Ho Ki Yeh Kya Hai? Sahaba'e Kiram RadiyAllahu 'Anhum Ne Arz Kiya Ki Allah Aur Us Ka Rasool ﷺ Hee Behtar Jaante Hain Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Ki Yeh Jannat Kee Beh-Tareen Aurate'n Hain Jo Ki Hazrat Khadijah Bint Khuwaylid, Hazrat Fatimah Bint Muhammad, Aasiyah Bint Mujaahim Jo Ki Fir'awn Kee Biwi Hai Aur Hazrat Maryam Bint Imran RadiyAllahu 'Anhunna Hain."

AL-HADITH RAQM 14: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/293, RAQM-2668,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/470, RAQM-7010,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 02/539, RAQM-3836.

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban Aur Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Farmaya Ki Is Hadith Kee Sanad Sahih Hai.

15/286. عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ خَدِيجَةَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Imam Ibn Sihaab Zuhri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Aurato’n Men Se Sab Se Pehle Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Par Imaan Laai’n.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Bayan Kiya Hai.

16/287. عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: كَانَتْ خَدِيجَةَ ﷺ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ بِرَسُولِهِ ﷺ. قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

---

AL-HADITH RAQM 15: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/203, RAQM-4844,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 06/367, RAQM-12859,

DULABI FI ADH-DHURRIYAT-UT-TAHIRAH, 01/30, RAQM-16.

AL-HADITH RAQM 16: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/203, RAQM-4845,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/249, RAQM-1099,

IBN ABD-IL-BARR FI AT-TAMHID, 08/51,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/117,

ZUHRI FI AT-TABQAT-UL-QUBRA, 08/118,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/220.



“Imam Ibn Shihaab RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Namaz Farz Hone Se Pehle Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Sab Se Pehli Khatoon Thi’n Jo Allah Par Imaan Laai’n Aur Us Ke Rasool, Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam (Ke Bar-Haq Hone) Kee Tasdiq Kee.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Bayan Kiya Hai.

17/288. عَنْ رَيْبَعَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ سَابِقَةَ نِسَائِي الْعَالَمِينَ إِلَيَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Rabi’ah Sa’di Bayan Karte Hain Ki Main Hazrat Hudhayfah Yamaani RadiyAllahu ‘Anhu Kee Khidmat Men Masjide Nabawi Men Haazir Huwa To Aap RadiyAllahu ‘Anhu Farma Rahe The Hazrat Khadijah Bint Khuwaylid RadiyAllahu ‘Anha Tamam Jahaan Kee Aurato’n Se Pehle Allah Aur Us Ke Rasool Par Imaan Laai’n.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Bayan Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 17: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/203, RAQM-4846,

MUNAWI FI FAYD-UL-QADIR SHARH AL-JAM’ AS-SAGHIR, 02/431,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’,02/116.

18/289. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتَنِي عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الشَّنَاءَ. قَالَتْ: فَعَرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذَكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أُبْدَلَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أُبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا: قَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النَّسَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Kabhi Bhi Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Zikr Farmate To Un Kee Khoob Ta’rif Farmate: Aap Farmati Hain Ki Ek Din Main Ghusse Men Aa Ga’i Aur Main Ne Kaha Ki Aap Surkh Rukhsaaron Waali Ka Tazkirah Bohat Ziyaada Karte Hain Haala’n Ki Allah Tabarak Wa-Ta’ala Ne Us Se Behtar Aurate’n Us Ke Ne’mul-Badal Ke Taur Par Aap Ko Ata’ Farmaa’i Hain, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Ta’ala Ne Mujhe Us Se Behtar Badal Ata’ Nahin Farmaya Woh To Aisi Khatoon Thi Jo Mujh Par Us Waqt Imaan Laai’n Jab Log Mera Inkaar Kar Rahe The Aur

AL-HADITH RAQM I8: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD,  
06/II7, 24908,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/13, RAQM-22,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/08,

ASQALANI FI AL-ISABAH FI TAMYIZ-IS-SAHABAH, 07/604,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/II7,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/224.

Meri Us Waqt Tasdiq Kee Jab Log Mujhe Jhutla Rahe The Aur Apne Maal Se Us Waqt Meri Dhaaras Bandhaa'i Jab Log Mujhe Mahroom Kar Rahe The Aur Allah Tabarak Wa-Ta'ala Ne Mujhe Us Se Aulaad Ata' Farmaa'i Jab Ki Doosri Aurato'n Se Mujhe Aulaad Ata' Farmane Se Mahroom Rakha.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Aur Tabarani Ne “Al-Kabir” Men Riwayat Kiya Hai.

19/290. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارِ لَهَا. فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَاحْتَمَلْتَنِي الْغَيْبَةَ إِلَيَّ أَنْ قُلْتُ فَدَعَوَضَكَ اللَّهُ مِنْ كَبِيرَةِ السِّنِّ. قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَضِبَ غَضَبًا سَقَطَ فِي جِدِّي، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ إِنْ أَذْهَبْتَ عَنِّي غَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَذْكَرْهَا بِسُوءٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي لَقِيتُ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ وَاللَّهِ، لَقَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَرُزِقْتَ مِنِّي الْوَلَدُ إِذْ حُرِّمْتَنِي مِنِّي، فَغَدَا بِهَا عَلَيَّ وَرَاحَ شَهْرًا.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 23/13, RAQM-21,  
DHABABI FI SIYAR A'LAM AN-NUBALA', 02/112,  
DULABI FI ADH-DHURRIYAT-UT-TAHIRAH, 01/31,  
HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID,  
09/224.

“Hazrat Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Zikr Farmate The To Un Kee Ta’rif Aur Un Ke Liye Isitghfaar Wa Du’a’e Maghfirat Karte Huwe Thakte Nahin The. Pas Ek Din Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Tazkirah Farmaya To Mujhe Ghussa Aa Gaya Yaha’n Tak Ki Main Ne Yeh Keh Diya Ki Allah Tabarak Wa-Ta’ala Ne Aap Ko Us Budhiya Ke Iwaz (Hasin-o Jameel) Biwiya’n Aata’ Farmaa’i Hain. Pas Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dekha Ki Aap Shadeed Jalaal Men Aa Ga’e, (Yeh Soorate Haal Dekh Kar) Main Ne Apne Dil Men Kaha: Ae Allah! Agar Aaj Too Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Ghusse Ko Thanda Kar De To Main Kabhi Bhi Hazrat Khadijah RadiyAllahu ‘Anha Ka Bure Lafzon Men Tazkirah Nahin Karungi. Pas Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Meri Yeh Haalat Dekhi To Farmaya: Tum Aisa Kaise Keh Sakti Ho? Haala’n Ki, Khuda Kee Qasam! Woh Mujh Par Us Waqt Imaan Laa’in Jab Log Mera Inkaar Kar Rahe The Aur Meri Us Waqt Tasdiq Kee Jab Log Mujhe Jhutla Rahe The Aur Meri Aulad Bhi Un Ke Batn Se Paida Hu’i Jab Ki Too Is Se Mahroom Hai, Pas Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ek Maah Tak Isi Haalat (Ya’ni Qadre Naaraazgi Kee Haalat Men) Sub’h-o Shaam Tashrif Laate.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne “Al-Mu’jam-ul-Kabir” Men Riwayat Kiya Hai.

20/291. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ يَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَيَّ فَلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَيَّ بَيْتِ فَلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Men Koi Cheez Pesh Kee Jaati To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-SallamFarmate: Is Ko Fula’n Khaatoon Ke Ghar Le Ja’o Kyun Ki Yeh Khadijah Kee Saheli Hai, Is Ko Fula’n Khaatoon Ke Ghar Le Ja’o Kyun Ki Yeh Khadijah Se Mahabbat Rakhti Thi.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne “Al-Adab-ul-Mufrad” Men Bayan Kiya Hai.

## 2. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي

بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat 'Ā'ishah Ṣiddīqah

Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

21/292. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ:

يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ. فَقُلْتُ: وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ

اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ.

“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Se Riwayat Hai Ki Ek Roz RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Aa'ishah! Yeh Jibra'il Tumhe'n Salam Kehte Hain. Main Ne Jawaab Diya: Un Par Bhi Salam Ho Aur Allah Kee Rahmat Aur Barakaat Ho'n. Lekin Aap (Ya'ni RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam) Jo Kuchh Dekh Sakte Hain Woh Main Nahin Dekh Sakti.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari, Imam Muslim Aur Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 21: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1374,

RAQM-3557,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1895, RAQM-2447,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/55, RAQM-2693.

22/293. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُرَيْتَكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أُرِي أَنِّي فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ وَ يُقَالُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفَ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Se Farmaya: Main Ne Khwaab Men Do Martaba Tumhe’n Dekha Main Ne Dekha Ki Tum Reshami Kapdon Men Lipti Hu’i Ho Aur Mujhe Kaha Gaya Ki Yeh Aap Kee Biwi Hai. So Pardah Hata Kar Dekhiye, Jab Main Ne Dekha To Tum Thi. To Main Ne Kaha Ki Agar Yeh Allah Ta’ala Kee Taraf Se Hai To Woh Aisa Kar Ke Hee Rahega.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

23/294. عَنْ أَبِي عَثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَيَّ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ:

AL-HADITH RAQM 22: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1415, RAQM-3682,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/1969,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1889, RAQM-2438,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/41, RAQM-24188.

AL-HADITH RAQM 23: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 04/1584, RAQM-4100,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1856, RAQM-2384,

TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/706, RAQM-3885,

عَائِشَةُ. قُلْتُ: مَنِ الرَّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ. فَعَدَّ  
رَجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aboo Uthman RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ghazwa’e Dhaat-us-Sulaasil Ke Liye Hazrat Amr Bin Al-Aas Ko Amire Lashkar Muqarrar Farmaya. Hazrat Amr Bin Al-Aas RadiyAllahu ‘Anhu Farmate Hain Ki Main Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Haazir Ho Kar Arz Guzar Huwa: Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Ko Insaanon Men Sab Se Pyaara Kaun Hai? Farmaya: Aa’ishah, Main Arz-Guzaar Huwa: Mardo’n Men Se? Farmaya: Us Ka Waalid, Main Ne Arz Kiya: Un Ke Ba’d Kaun Hai? Farmaya: Umar, Us Ke Ba’d Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Chand Digar Hazaraat Ke Naam Liye Lekin Main Is Khayaal Se Khaamosh Ho Gaya Ki Kahin Mera Naam Aakhir Men Na Aa’e.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

24/295. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ  
عِنِّي رَاضِيَةٌ وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي. قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/308, RAQM-6885.

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/2004,  
RAQM-4930,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1890, RAQM-2439,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 16/49, RAQM-7112,



ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتُ عِنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ،  
وَإِذَا كُنْتُ غَضْبِي قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ وَاللَّهِ، يَا  
رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ka Bayan Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujh Se Farmaya: Main Ba-Khoobi Jaan Leta Hoo’n Jab Tum Mujh Se Raazi Hoti Ho Aur Jab Naaraaz Hoti Ho. Woh Farmati Hain Ki Main Arz-Guzaar Hu’i Ki Yeh Baat Aap Kis Tarh Ma’loom Kar Lete Hain? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Ki Jab Tum Mujh Se Raazi Hoti Ho To Kehti Ho Ki Rabbe Muhammad Kee Qasam! Aur Jab Tum Na-Khush Hoti Ho To Kehti Ho Rabbe Ibrahim Kee Qasam! Woh Farmati Hain Ki Main Arz-Guzaar Hu’i Ki Khuda Kee Qasam! Ya RasoolAllah ﷺ! Us Waqt Main Sirf Aap Ka Naam Hee Chhodti Hoo’n.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

25/296. عَنْ عَائِشَةَ  : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ  
يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/61, RAQM-24363.

AL-HADITH RAQM 25: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 02/910,  
RAQM-2435,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/189I, RAQM-244I,

NASA’I FI AS-SUNAN, 07/69, RAQM-395I,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 06/169, RAQM-II723.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Marwi Hai Ki Log Apne Tahaa’if Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Pesh Karne Ke Liye Mere (Saath Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Makhsoos Kardah) Din Kee Talaash Men Rehte The, Aur Is Amal Se Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Riza Chahte The.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

26/297. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَعَدَّرُ فِي مَرَضِهِ  
أَيُّنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيُّنَ أَنَا عَدَا؟ اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ  
اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam (Marazul-Wisaal) Men (Meri) Baari Talab Karne Ke Liye Puuchhte Ki Main Aaj Kaha’n Rahunga? Kal Main Kaha’n Rahunga? Phir Jis Din Meri Baari Thi Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Sare Anwar Meri God Men Tha Ki Allah Azza Wa-Jalla Ne Aap Kee Roohe Muqaddasa Qabz Kar Lee Aur Mere Ghar Men Hee Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Madfoon Huwe.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

27/298. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسَاءُ فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةَ السِّنِّ الْحَرِيصَةَ عَلَيَّ اللَّهُو.  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dekha Ki Mere Kamre Ke Darwaaze Par Khade Huwe The Aur Habashi Apne Hathyaaro’n Se Lais RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Masjid Men Khel Rahe The, RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mujhe Apni Chaadar Men Chhupaa’e Huwe The Taa Ki Main Un Ka Khel Dekhti Rahoo’n. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Meri Waj’h Se Khade Rahe Yaha’n Tak Ki Mera Jee Bhar Gaya Aur Main Khud Waha’n Se Chali Ga’i. Ab Tum Khud Andaza Kar Lo Ki Kam-Sin Aur Khel Kee Shaa’iq Ho Woh Kab Tak Dekhegi.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 27: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/2006,  
RAQM-4938,  
MUSLIM FI AS-SAHIH, 02/608, RAQM-892,  
NASA’I FI AS-SUNAN, 03/195, RAQM-1595,  
AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/85, RAQM-24596,  
TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/179, RAQM-282.

28/299. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ فُقَيْلَ مَوْتِهَا عَلَيَّ عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ. قَالَتْ: أَحْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مِنْ وَجْهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ اتَّقَيْتُ. قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بَكَرًا غَيْرَكَ وَ نَزَلَ عُدْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ، وَ دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنَسِيًّا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Imam Ibn Abi Mulaykah Ka Bayan Hai Ki Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Andar Aane Kee Ijaazat Maangi Jab Ki Wafaat Se Pehle Woh Aalame Naza’ Men Thi’n. Unhone Farmaya: Mujhe Dar Hai Ki Yeh Meri Ta’rif Karenge. Haazirin Ne Kaha: Yeh To RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Chacha-Zaad Aur Sar-Kardah Musalmanon Men Se Hain. Unhone Farmaya: Achchha Unhe’n Ijaazat De Do. Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Ne Poochha Ki Aap Ka Kya Haal Hai? Jawaab Diya: Agar Parhezgaar Hoo’n To Behtar Hai. Aap Ne Famaya: InshaAllah Behtar Hee Rahega Kyun Ki Aap RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Zaujah Mutahhrah Hain Aur Aap Ke Siwa Unhone Kisi Kunwaari Aurat Se Nikaah Nahin Kiya Aur Aap Kee Bara’at Aasmaan Se Naazil Hu’i Thi. Un Ke Ba’d Hazrat Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu ‘Anhu Andar Aa’e To Hazrat Aa’ishah

Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ne Farmaya: Hazrat Abd Allah Bin Abbas Aa'e The Woh Meri Ta'rif Kar Rahe The Aur Main Yeh Chhahti Hoo'n Kee Kaash! Gumnaam Hoti."

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.

29/300. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"Hazrat Urwah Bin Zubayr RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Ke Paas Allah Ke Rizq Men Se Jo Bhi Cheez Aati Woh Us Ko Apne Paas Na Roke Rakhti'n Balki Usi Waqt (Khade Khade) Us Ka Sadaqa Farma Deti'n."

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Hai.

30/301. عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: وَ هَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَ هَذِهِ

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1291, RAQM-3314

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 03/1609, RAQM-2037,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/123, RAQM-12265.

قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَ هَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ، فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَ يَتَدَاوِعَانِ حَتَّى آتِيَا مَنَزِلَهُ.  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Ek Faarisi Padosi Bohat Achchha Saalan Banaata Tha, Pas Ek Din Us Ne Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Liye Saalan Banaaya, Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Da’wat Dene Ke Liye Haazir Huwa To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aur Yeh Bhi Ya’ni Aa’ishah (Bhi Mere Saath Mad’u Hai Ya Nahin) To Us Ne Arz Kiya: Nahin, Is Par Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Nahin (Main Nahin Ja’ungaga) Us Shakhs Ne Do Barah Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dawat Dee To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Yeh Bhi (Ya’ni Aa’ishah) To Us Aadami Ne Arz Kiya: Nahin, To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Phir Inkar Farma Diya. Us Shakhs Ne Seh Baarah Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Da’wat Dee, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Yeh Bhi, Us Ne Arz Kiya: Haa’n Yeh Bhi, Phir Dono’n (Ya’ni Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha) Ek Doosre Ko Thaamte Huwe Uthe Aur Us Shakhs Ke Ghar Tashrif Le Kar Aa’e.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

31/302. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةٍ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ  
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Marwi Hai Ki Hazrat Jibra’ile Amin ﷺ Resham Ke Sabz Kapde Men (Lipti Hu’i) Un Kee Taswir Le Kar Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Aqdas Men Haazir Huwe Aur Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Yeh Dunya Wa Aakhirat Men Aap Kee Ahliyya Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai Niz Imam Tirmidhi Ne Farmaya Hai Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

32/303. عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

AL-HADITH RAQM 31: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/704,  
RAQM-3880,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 16/06, RAQM-7094,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 03/649, RAQM-I237,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/I40, RAQM-I41.

AL-HADITH RAQM 32: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/705,  
RAQM-3883,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/I79,

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Aboo Moosa RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ham As’hab-e Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Liye Jab Kabhi Bhi Koi Hadith Mushkil Ho Jaati To Ham Umm-ul-Mu’minin Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Se Us Ke Baare Men Poochhte To Un Ke Haa’n Us Hadith Ka Sahih Ilm Paa Lete.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai.

33/304. عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Moosa Bin Talhah Bayan Karte Hain Ki Main Ne Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Se Badh Kar Kisi Ko Faseeh Nahin Dekha.”

MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 12/423,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/32,

ASQALANI FI AL-ISABAH FI TAMYIZ-IS-SAHABAH, 08/18.

AL-HADITH RAQM 33: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/705,  
RAQM-3884,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/12, RAQM-6735,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/182,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/191,

AHMAD BIN HANBAL FI FADA’IL-US-SAHABAH, 02/876, RAQM-  
1646,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,  
09/243.



Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

34/305. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّهَا (أَيُّ عَائِشَةَ) حَبَّةٌ أَيْبَكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. الْحَدِيثُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ek Taweel Hadith Men Riwayat Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apni Saahib-Zaadi Hazrat Fatimah RadiyAllahu ‘Anha Se Farmaya: Rabbe Ka’ba Kee Qasam! Be-Shak Aa’ishah Tumhare Waalid Ko Bohat Ziyaada Mahboob Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Bayan Kiya Hai.

35/306. عَنْ ذَكْوَانَ حَاجِبِ عَائِشَةَ: أَنَّهُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلِيَّ عَائِشَةَ. فَقَالَتْ: ائْذِنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَادْخَلْتُهُ فَلَمَّا جَلَسَ، قَالَ: أَبْشِرِي، فَقَالَتْ: أَيُّضًا، فَقَالَ: مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقِي مُحَمَّدًا

---

AL-HADITH RAQM 34: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/274, RAQM-4898,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 04/322.

AL-HADITH RAQM 35: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/276, RAQM-2496,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 16/41, 42, RAQM-7108,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 10/321, RAQM-10783,

ABOO YA’LA FI AL-MUSNAD, 05/5765, RAQM-2648.

وَالْأَحِبَّةِ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الرُّوحُ مِنَ الْجَسَدِ، كُنْتُ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ  
 اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا وَ  
 سَقَطَتْ قِلَادَتُكَ لَيْلَةَ الْأَبْوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُصْبِحَ فِي  
 الْمَنْزِلِ وَ أَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ (فَتَيَمَّمُوا  
 صَعِيدًا طَيِّبًا) فَكَانَ ذَلِكَ فِي سَبِيكِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ  
 مِنَ الرُّحْصَةِ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءً تَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ  
 الْأَمِينُ، فَأَصْبَحَ لَيْسَ اللَّهُ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يُتَلَى  
 فِيهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَأَثَاءَ النَّهَارِ، فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي  
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو يَعْلَى.

“Hazrat Dhakwaan Jo Ki Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ke Darbaan The, Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Milne Kee Ijaazat Talab Karne Ke Liye Tashrif Laa’e..... To Aap Ne Farmaya: Agar Tum Chahte Ho To Unhe’n Ijaazat De Do, Raawi Bayan Karte Hain Phir Main Un Ko Andar Le Aaya Pas Jab Woh Baith Ga’e To Arz Karne Lage: Ae Umm-ul-Mu’minin! Aap Ko Khush-Khabari Ho, Aap Ne Jawaaban Farmaya: Aur Tumhe’n Bhi Khush-Khabari Ho, Phir Unhone Arz Kiya: Aap Kee Aap Ke Mahboob Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Mulaaqaat Men Siwaa’e Aap Kee Rooh Ke Qafase Unsuri Se Parwaaz Karne Ke Koi Cheez Maane’ Nahinn Hai. Aap Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Tamam Azwaaaje Mutahharaat Se [www.TahirulQadiriBooks.com](http://www.TahirulQadiriBooks.com)

Badh Kar Aziz Thi'n Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Siwaa'e Paakizah Cheez Ke Kisi Ko Pasand Nahin Farmate The, Aur Abwa Wali Raat Aap Ke Gale Ka Haar Gir Gaya To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Sub'h Tak Ghar Na Pahonche Aur Sahaba'e Kiram RadiyAllahu Ta'ala Anhum Ne Sub'h Us Haal Men Kee Ki Un Ke Paas Wuzoo Karne Ke Liye Paani Nahin Tha To Us Mauqa' Par Allah Ta'ala Ne Aayate Tayammum Naazil Farmaa'i "Pas Tayammum Karo Paakizah Mitti Ke Saath." Aur Yeh Saara Aap Ke Sabab Huwa Aur Yeh Jo Rukhsat Allah Ta'ala Ne (Tayammum Kee Shakl Men) Naazil Farmaa'i (Yeh Bhi Aap Kee Ba-Daulat Huwa) Aur Allah Ta'ala Ne Aap Kee Bara'at Saat Aasmaanon Ke Oopar Se Naazil Farmaa'i Jise Hazrat Jibra'il Amin عليه السلام Le Kar Naazil Huwe Pas Ab Allah Ta'ala Ke Masaajid Men Se Koi Masjid Ab Aisi Nahin Hai Jis Men Allah Ta'ala Ka Naam Liya Jaata Hai Jis Men Us (Soora'e Bara'at) Kee Raat-Din Tilaawat Na Hoti Ho. Yeh Sun Kar Aap Ne Farmaya: Ae Ibn Abbas! Bas Karo Meri Aur Ta'rif Na Karo. Us Zaat Kee Qasam Jis Ke Qabza'e Qudrat Men Meri Jaan Hai! Mujhe Yeh Pasand Hai Ki Main Koi Bhooli Bisri Cheez Hoti (Jise Koi Na Jaanta Hota)."

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Ibn Hibban Aur Aboo Ya'la Ne Riwayat Kiya Hai.

36/307. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَا يَدَيْهِ عَلَيَّ  
مَعْرِفَةً فَرَسٍ وَهُوَ يُكَلِّمُ رَجُلًا، قُلْتُ: رَأَيْتَكَ وَأَضَعَا يَدَيْكَ عَلَيَّ مَعْرِفَةً

AL-HADITH RAQM 36: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/674, RAQM-24606,

02/871, RAQM-I635,

HUMAYDI FI AL-MUSNAD, 01/133, RAQM-277,

فَرَسٍ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، قَالَ: وَرَأَيْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ذَاكَ  
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُفَرِّئُكَ السَّلَامَ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ  
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ وَدَخِيلٍ، فَنِعْمَ الصَّاحِبُ وَ  
نِعْمَ الدَّخِيلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ne Farmaya Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dekha: Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ghode Kee Gardan Par Apna Daste Aqdas Rakha Huwa Hai Aur Ek Aadami Se Kalaam Farma Rahe Hain, Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Main Ne Aap Ko Dekha Ki Aap Ne Dihyah Kalbi Ke Ghode Kee Gardan Par Apna Daste Aqdas Rakha Huwa Hai Aur Un Se Kalaam Farma Rahe Hain, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Too Ne Yeh Manzar Dekha? Aap Ne Arz Kiya: Haa’n, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Famaya: Woh Jibra’i عليه السلام The Aur Woh Tujhe Salaam Pesh Karte Hain, Aap Ne Farmaya: Aur Un Par Bhi Salaamati Ho Aur Allah Ta’ala Kee Rahmat Aur Barkate’n Ho’n, Aur Allah Ta’ala Dost Aur Mehman Ko Jaza’e Khair Ata’ Farmaa’e, Pas Kitna Hee Achchha Dost (Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Zaate Aqdas) Aur Kitna Hee Achchha Mehmaan (Hazrat Jibra’il عليه السلام) Hain.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

---

ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-  
ASFIYA’, 02/46,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/20.

37/308. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَ مَا تَأَخَّرَ مَا أَسْرَتْ وَمَا أَعْلَنْتَ فَصَحِحَتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحْكِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَسْرُكِ دُعَائِي، فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسْرُنِي دُعَاؤُكَ، فَقَالَ ﷺ: وَاللَّهِ، إِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Farmati Hain Ki Jab Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Khush-Guwaar Haalat Men Dekha To Main Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Allah Ta’ala Se Mere Haq Men Du’a Farma’en, To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Allah! Aa’ishah Ke Agle-Pichhle, Zaahiri-Baatini, Tamam Gunaah Muaaf Farma (Aisa Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Azraahe Mizaah Farmaya) Yeh Sun Kar Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Itni Hansi’n Yaha’n Tak Ki Un Ka Sar Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee God Men Aa Pada (Ya’ni Hansi Se Lot-Pot Ho Ga’in) Is Par Huzoor

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 06/48, RAQM-7III,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHHAYN, 04/13, RAQM-6738,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 06/390, RAQM-32285,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 01/498, RAQM-2032,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/145,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/243.

Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kya Meri Du’a Tumhe’n Achchhi Lagi Hai? Unhone Arz Kiya: Yeh Kaise Ho Sakta Hai Ki Aap Kee Du’a Mujhe Achchhi Na Lage, Phir Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Allah Kee Qasam! Be-Shak Har Namaz Men Meri Yeh Du’a Meri Ummat Ke Liye Khaas Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai.

38/309. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Ata’ Bayan Karte Hain Ki Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Tamaam Logo’n Se Badh Kar Faqiha Aur Tamaam Logo’n Se Badh Kar Jaan’ne Waale’n Aur Tamaam Logo’n Se Badh Kar Aam Muaamalaat Men Achchhi Raa’e Rakhne Waali Thi’n.”

Is Hadith Ko Imam Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 38: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/15, RAQM-6748,  
 DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/185,  
 ASQALANI FI TAHDHIB-UT-TAHDHIB, 12/463,  
 MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 35/234,  
 IBN ABD-IL-BARR FI AL-ISTI’AB, 04/1883,  
 ASQALANI FI AL-ISABAH, 08/18.

39/310. عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِشَعْرِ، وَلَا فَرِيضَةَ، وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهِ مِنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Urwah Bayan Karte Hain Ki Main Ne Umm-ul-Mu'minin Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Se Badh Kar, She'r, Fara'iz Aur Fiq'h Ka Aalim Kisi Ko Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

40/311. عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيهِنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِلْمِهِنَّ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

AL-HADITH RAQM 39: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 04/276, RAQM-26044,

ASQALANI FI TAHDHIB-UT-TAHDHIB, 12/463,

MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 35/234,

IBN ABD-IL-BARR FI AL-ISTI'AB, 04/1883,

ASQALANI FI AL-ISABAH FI TAMYIZ-IS-SAHABAH, 08/18.

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 23/184, RAQM-299,

ASQALANI FI TAHDHIB-UT-TAHDHIB, 12/463,

MIZZI FI TAHDHIB-UL-KAMAL, 35/235,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/33,

KHALLAL FI AS-SUNNAH, 02/476,

DHAHABI FI SIYAR A'LAM AN-NUBALA', 02/185,

HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID, 09/243.

“Hazrat Zuhri RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Agar Is Ummat Kee Tamam Aurato’n Ke Jin Men Ummahat-ul-Mu’minin Bhi Shaamil Ho’n Ilm Ko Jam’a Kar Liya Jaa’e To Aa’ishah Ka Ilm Un Sab Ke Ilm Se Ziyaada Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

41/312. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةَ: مَا رَأَيْتُ حَاطِبًا قَطُّ أَبْلَغَ وَلَا أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Qasim Bin Muhammad Bayan Karte Hain Ki Hazrat Mu’awiyah RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya: Main Ne Kisi Bhi Khatib Ko Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Se Badh Kar Balaaghat-o Fataanat (Zahaanat) Waala Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

42/313. عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَعْلَمَ بِالْقُرْآنِ وَلَا بَفَرِيضَةِ وَلَا بِحَلَالٍ وَلَا بِشِعْرِ وَلَا بِحَدِيثِ الْعَرَبِ وَلَا بِنَسَبٍ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

---

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/183, RAQM-298,

SHAYBANI FI AL-AHD WA’L-MATHANI, 05/398, RAQM-3027,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID, 09/243.

AL-HADITH RAQM 42: AKHRAJAHU ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 02/49, 50,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/32.



“Hazrat Urwah Bayan Karte Hain Ki Main Ne Logo'n Men Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Se Badh Kar Kisi Ko Qur'an, Fara'iz, Halaal-o Haraam, She'r, Arbon Kee Baaten, Aur Nasab Ka Aalim Nahin Dekha.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Ne Riwayat Kiya Hai.

43/314. عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ وَ كَانَتْ تَعْشَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا بِمَالٍ فِي غَرَارَتَيْنِ ثَمَانِينَ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَدَعَتْ بِطَبْقٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَائِمَةٌ فَجَلَسَتْ تَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَمْسَتْ وَ مَا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمٌ فَلَمَّا أَمْسَتْ، قَالَتْ: يَا جَارِيَةَ، هَلْمِي فِطْرِي فَجَاءَتْهَا بِخُبْزٍ وَ زَيْتٍ، فَقَالَتْ لَهَا أُمَّ ذَرَّةَ: أَمَا اسْتَطَعْتَ مِمَّا قَسَمْتَ الْيَوْمَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا لَحْمًا بِدِرْهَمٍ نَفْطُرُ عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَا تَعْنِفْنِي، لَوْ كُنْتُ ذَكَرْتَنِي لَفَعَلْتُ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ سَعْدٍ.

“Hazrat Umme Dharrah, Jo Ki Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Kee Khaadimah Thi'n, Bayan Karti Hain Ki Hazrat Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu 'Anhu Ne Do-02 Thailiyon Men Aap Ko Assi Hazaar-80.000 Ya Ek Laakh Kee Maaliyyat Ka Maal Bheja, Aap Ne (Maal Rakhne Ke Liye) Ek Thaal Mangwaaya Aur Aap Us Din Roze Se Thi'n, Aap Woh Maal Logo'n Men Taqsim Karne Ke

AL-HADITH RAQM 43: AKHRAJAHU ABOO NU'AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA' WA TABAQAT-UL-ASFIYA', 02/47,

HANNAD FI AZ-ZUHD, 01/337, 338,

DHAHABI FI SIYAR A'LAM AN-NUBALA', 02/187,

IBN SA'D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 08/67.

Liye Baith Ga'in, Pas Shaam Tak Us Maal Men Se Aap Ke Paas Ek Dirham Bhi Na Bacha, Jab Shaam Ho Ga'i To Aap Ne Farmaya: Ae Ladki! Mere Liye Iftaar Ke Liye Kuchh Laa'o Woh Ladki Ek Roti Aur Thoda Saa Ghi Le Kar Haazir Hu'i, Pas Umme Dharrah Ne Arz Kiya: Kya Aap Ne Jo Maal Aaj Taqsim Kiya Hai Us Men Se Hamaare Liye Ek Dirhma Ka Gosht Nahin Kharid Sakti Thi'n Jis Se Aaj Ham Iftaar Karte, Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ne Farmaya: Ab Mere Saath Is Lehje Men Baat Na Kar Agar Us Waqt (Jab Main Maal Taqsim Kar Rahi Thi) Too Ne Mujhe Yaad Karaaya Hota To Shaayad Main Aisa Kar Leti."

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Aur Imam Ibn Sa'd Ne Riwayat Kiya Hai.

44/315. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَجُودُهُمَا مَخْتَلِفٌ: أَمَّا عَائِشَةُ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَيَّ الشَّيْءِ حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَأَمَّا أُسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِعَدِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

"Hazrat Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu 'Anhuma Bayan Karte Hain Ki Main Hazrat Aa'ishah Aur Hazrat Asma' RadiyAllahu 'Anhuma Se Badh Kar Sakhaawat Karne Waali Koi Aurat Ko Nahin Dekhi Aur Dono'n Kee Sakhaawat Men Farq Hai Ki Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Thodi-Thodi Ashyaa' Jam'a Farmati Rehti Thi'n Aur Jab Kaafi Saari Ashyaa' Aap Ke Paas Jam'a Ho Jaati'n To Aap

Unhe'n (Ghuraba Aur Mohtaajon Men) Taqsim Farma Deti'n, Jab Ki Hazrat Asma' (Bhi) Apne Paas Kal Ke Liye Koi Cheez Nahin Bacha Kar Rakhti Thi'n."

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Al-Adab-ul-Mufrad Men Bayan Kiya Hai.

45/316. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةَ إِلَى عَائِشَةَ بِطُوقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ

جَوْهَرٌ قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَسَمَتْهُ بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

رَوَاهُ هُنَادٌ وَأَبْنُ الْجَوْزِيِّ.

"Hazrat Ata' Se Marwi Hai Woh Bayan Karte Hain Ki Hazrat Mu'awiyah RadiyAllahu 'Anhu Ne Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ko Sone Ka Haar Bheja Jis Men Ek Aisa Jauhar Laga Huwa Tha Jis Kee Qimat Ek Laakh Dirham Thi, Pas Aap Ne Woh Qimati Haar Tamaam Ummahat-ul-Mu'minin Men Taqsim Farma Diya."

Is Hadith Ko Imam Hunaad Aur Ibn Al-Jawzi Ne Riwayat Kiya Hai.

46/317. عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَانَتْ تَسْرُدُ الصَّوْمَ. وَعَنِ الْقَاسِمِ،

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا تَفْطُرُ إِلَّا يَوْمَ أَضْحَىٰ أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ.

---

AL-HADITH RAQM 45: AKHRAJAHU HANNAD FI AZ-ZUHD, 01/337,  
RAQM-618,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/29.

AL-HADITH RAQM 46: AKHRAJAHU ABD-UR-RAZZAQ FI AL-MUSANNAF,  
02/451, RAQM-4048,

و في رواية عنه: قَالَ: كُنْتُ إِذَا غَدَوْتُ أَبْدَأُ بِبَيْتِ عَائِشَةَ أُسَلِّمُ عَلَيْهَا،  
فَعَدَوْتُ يَوْمًا فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَسْبِخُ وَ تَقْرَأُ: (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ  
السَّمُومِ) وَ تَدْعُو وَ تَبْكِي وَ تُرَدِّدُهَا فَقُمْتُ حَتَّى مَلَلْتُ الْقِيَامَ فَذَهَبْتُ  
إِلَى السُّوقِ لِحَاجَتِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ تُصَلِّي وَ تَبْكِي.  
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

“Hazrat Urwah Bayan Karte Hain Ki Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Musalsal Roze Se Hoti Thi’n. Aur Qasim Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Aa’ishah Musalsal Roze Se Hoti Thi’n Aur Sirf Eid-ul-Ad’ha Aur Eid-ul-Fitr Ko Iftaar Farmati Thi’n.

Aur In Hee Se Riwayat Hai Ki Main Sub’h Ko Jab Ghar Se Rawaana Hota To Sab Se Pehle Salam Karne Kee Gharz Se Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ke Paas Jaata, Pas Ek Sub’h Men Aap Ke Ghar Gaya To Aap Haalate Qiyaam Men Tasbih Farma Rahi Thi’n Aur Yeh Aaya’e Karima Padh Rahi Thi’n ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ Aur Du’a Karti Aur Roti Jaa Rahi Thi’n Aur Is Aayat Ko Baar-Baar Duhra Rahi Thi’n, Pas Main (Intezaar Kee Khaatir) Khada Ho Gaya Yaha’n Tak Ki Main Khada Ho Kar Ukta Gaya Aur Apne Kaam Kee Gharz Se Baazaar Chala Gaya, Phir Main Waapas Aaya To Main Ne Dekha Ki Aap Usi Haalat Men Khadi Namaaz Ada kar Rahi’n Hain Aur Musalsal Roye Jaa Rahi Hain.”

Is Hadith Ko Imam Abd-ul-Razzaq, Imam Bayhaqi Aur Ibn Jawzi Ne Riwayat Kiya Hai Yeh Alfaaz Ibn Jawzi Ke Hain.

### 3. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥaḥṣah Raḍiya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

47/318. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَدَرْتَنِي إِلَيْهِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ. قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Main Aur Hafsah Roze Se Thi’n Ki Hamaare Saamne Khaana Pesh Kiya Gaya Jis Kee Hame’n Talab Bhi Thi Ham Ne Use Khaa Liya Itne Men Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Le Aa’e, Hazrat Hafsah Guftugu Men Mujh Se Sabaqat Le Ga’in Aur (Aisa Kyun Na Hota) Woh Apne Baap Kee Beti Thi’n (Ya’ni Hazrat Umar Farooq RadiyAllahu ‘Anhu Kee Tarh Jari

AL-HADITH RAQM 47: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 03/II2, RAQM-735,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 02/247, RAQM-329I,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 08/10I, RAQM-4639,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 03/353, RAQM-885.

Thi'n) Kehne Lagi'n: Ya RasoolAllah ﷺ! Ham Dono'n Ne Roza Rakha Huwa Tha Phir Hamaare Paas Khaana Aaya Jis Kee Hame'n Tamanna Thi To Ham Ne Us Se Khaa Liya, Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Kisi Doosre Din Is Kee Qaza' Kar Lena.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Imam Nasa'i Ne Riwayat Kiya Hai.”

48/319. عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَهَا قُدَّامَةَ وَ عُثْمَانُ ابْنَا مَظْعُونٍ فَبَكَتْ وَ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا طَلَّقَنِي عَنْ شَبَعٍ وَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَ إِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Qays Bin Zayd RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Hafsa Bint Umar RadiyAllahu 'Anhuma Ko Talaq Dee, Pas Aap Ke Maamu'n Quddamah Aur Uthman Jo Ki Maz'oon Ke

AL-HADITH RAQM 48: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 04/16, RAQM-6753,

TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-KABIR, 18/365, RAQM-934,

ABOO NU'AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA' WA TABAQAT-UL-ASFIYA', 02/50,

IBN SA'D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 08: 84,

ASQALANI FI AL-ISABAH, 05/559, RAQM-7356,

HARITH FI AL-MUSNAD (ZAWA'ID AL-HAYTHAMI), 02/914, RAQM-1000.

Bete Hain Aap Ko Milne Aa'e To Aap Ro Padi'n Aur Kaha: Khuda Kee Qasam! Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Ghussa Aur Ghazab Kee Waj'h Se Talaq Nahin Dee, Isi Dauran Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Udhar Tashrif Laa'e Aur Farmaya: Jibar'il عَلَيْهِ السَّلَام Aa Ne Mujhe Kaha Hai: "Aap Hafsah Kee Taraf Rujoo' Lar Len. Be-Shak Woh Bohat Ziyaada Roze Rakhne Aur Qiyaam Karne Waali Hain Aur Be-Shak Woh Jannat Men Bhi Aap Kee Ahliya Hain."

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

49/320. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا حَفْصَةَ، أَتَانِي جِبْرِيْلُ أَنْفًا  
فَقَالَ: فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

"Hazrat Anas RadiyAllahu 'Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Ae Hafsah! Abhi Abhi Jibar'il عَلَيْهِ السَّلَام Mere Paas Aa'e The Aur Mujhe Kaha: Be-Shak Woh (Hazrat Hafsah) Bohat Ziyaada Roze Daar Aur Qiyaam Karne Waali Hain Aur Woh Jannat Men Bhi Aap Kee Ahliya Hain."

---

AL-HADITH RAQM 49: AKHRAJAHU AL-TABARANI FI AL-MU'JAM-UL-AWSAT, 01/55, RAQM-151,  
MAQDISI FI AL-AHADITH AL-MUKHTARAH, 07/94, RAQM-2507,  
HAYTHAMI FI MAJMA'-UZ-ZAWA'ID WA MANBA'-UL-FAWA'ID,  
09/244.



Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Al-Mu'jam-ul-Awsat Men  
Riwayat Hai.

## 4. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Umme Salamah

Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

50/321. عَنْ أَبِي عَثْمَانَ، قَالَ: أُنْبِئْتُ: أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَيُّمُ اللَّهِ! مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ عَنْ جَبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Aboo Uthman Bayan Karte Hain Ki Mujhe Bataaya Gaya Ki Hazrat Jibar'il عليه السلام Ek Daf'a Huzoor Nabiyye Akram Sallallahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Men Haazir Huwe To Hazrat Umme Salamah Radiyallahu 'Anha Aap Sallallahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Maujood Thi'n, Pas Woh Aap Sallallahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Guftugu Karte Rahe Phir Chale

AL-HADITH RAQM 50: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1330,

RAQM-3435,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 04/1905, RAQM-4695,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/1906, RAQM-2451,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 07/55, RAQM-2602.

Ga'e, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu 'Anha Se Daryaaft Farmaya: Yeh Kaun The? Ya Jo Kuchh Bhi Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Unhone Jawaab Diya Ki Dihyah The, Hazrat Umme Salamah Farmati Hain Ki Khuda Kee Qasam Main Ne Unhe'n Dihyah Kalbi Hee Samjha Tha, Lekin Main Ne Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Dauraane Khutba Bataaya Ki Woh Hazrat Jibar'il The, Ya Jo Kuchh Bhi Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya, Muammar Ke Waalid Bayan Karte Hain Ki Main Ne Aboo Uthman Se Daryaaft Kiya Ki Aap Ne Yeh Kis Se Suna Hai To Unhone Bataaya Ki Usamah Bin Zayd RadiyAllahu 'Anhu Se."

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

51/322. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَيَّ أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Un Se Nikaah Karne Ke Ba'd Un Ke Paas Teen-03 Din Rahe Phir Farmaya: Tumhaari Ahammiyyat Aur Chaahat Apne Shauhar Kee Nazaro'n Men Hargiz Kam Nahin Hu'i, Agar Tum Chaaho To Main Tumhaare

---

AL-HADITH RAQM 51: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 02/1083,

RAQM-I460,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 02/240, RAQM-2122,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 10/10, RAQM-4210,

DARAMI FI AS-SUNAN, 02/194, RAQM-2210.

Paas Ek Haftah Qiyaam Kar Lo'n Aur Agar Main Tumhaare Paas Ek Haftah Raha To Main Apni Tamam Azwaaj Ke Paas Ek-Ek Haftah Rahunga.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

52/323. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَوَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتْ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِالسِّدَّةِ، فَقَالَ: تَنْحِي لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي فَتَنْحَتِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ وَ أَخَذَ عَلِيًّا بِأَحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَ أَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْأُخْرَى فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَ قَبَّلَهُمَا وَ أَغْدَفَ عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدَاءً ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِلَيْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا النَّارِ، أَنَا، وَ أَهْلُ بَيْتِي، قَالَتْ: فَنَادَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَ أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَ أَنْتِ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ek Din Un Ke Paas Un Ke Ghar Tashrif Farma The Pas Khaadim Aaya Aur Arz Kiya: Hazrat Ali Aur Fatimah RadiyAllahu

AL-HADITH RAQM 52: AKHRAJAHU IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF,

06/370, RAQM-32104,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/296, RAQM-26582,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 23/393, RAQM-939,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,

09/I66.

'Anhauma (Ghar Kee) Dehliz Par Khade Hain, Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mere Liye Mere Ghar Waalo'n Ke Raaste Se Hat Jaaya Karo, (Ya'ni Un Ko Bila-Ijaazat Ghar Aane Diya Karo) Pas Woh Khaadim Ghar Ke Ek Kone Men Chala Gaya, Pas Hazrat Ali Aur Hazrat Fatimah Aur Hasanayn Karimayn RadiyAllahu 'Anhum Andar Tashrif Laa'e. Huzoor Nabiiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Apne Nawaason Ko Apni God Men Bithaaya Aur Apna Ek Daste Mubarak Hazrat Ali RadiyAllahu 'Anhu Par Rakha Aur Un Ko Apne Saath Milaaya Aur Apna Doosra Daste Aqdas Hazrat Fatimha RadiyAllahu 'Anha Par Rakha Aur Unhe'n Bhi Apne Saath Milaaya Aur Un Dono'n Ko Chooma Aur Phir Un Sab Par Apni Kaali Kamli Beechha Dee Phir Farmaya: Ae Allah! Teri Taraf Na Ke Aag Kee Taraf, Main Aur Mere Ahle Bait, Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain: Main Ne Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Pukaar Kar Arz Kiya: Aur Main Bhi Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Haa'n Tum Bhi."

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

## 5. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي

سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Umme Ḥabībah

Raḍiya Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

53/324. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى

اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ يُبْنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَتْ أُمُّ

حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Umm-ul-Mu'minin Hazrat Umme Habibah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna Jo Musalman Banda Har Roz Allah Ta'ala Ke Liye Baarah-12 Rak'at Nafi Padhega Us Ke Liye Un Ke Badle Men Jannat Men Ghar Banaaya Jaa'ega. Hazrat Umme Habibah RadiyAllahu 'Anha Farmati Hain Main Ne Us Din Ke Ba'd Kabhi Bhi Yeh Baarah Rak'at Tark Nahin Kee'n.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

AL-HADITH RAQM 53: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 01/502, RAQM-728,

IBN KHUZAYMAH FI AS-SAHIH, 02/203, RAQM-II87,

IBN RAHWAYH FI AL-MUSNAD, 01/233,

ABOO YA'LA FI AL-MUSNAD, I3/44, RAQM-7124.

54/325. عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

“Imam Zuhri Bayan Karte Hain Ki Najaasi Ne Umme Habibah Bint Abi Sufyan RادیAllahu ‘Anhuma Kee Shaadi Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Chaar Hazaar-4000 Dirham Haqqe Mahr Par Kee Aur Us Kee Khabar Ba-Zaria’e Khat Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Dee To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Use Qubool Farma Liya.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

55/326. عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ بَنُ حَرْبِ الْمَدِينَةَ جَاءَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ يُرِيدُ غَزْوَ مَكَّةَ فَكَلَّمَهُ أَنْ يُزِيدَ فِي هَدَنَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَامَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ابْنَتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ،

---

AL-HADITH RAQM 54: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 02/235, RAQM-2108,

SHAWKANI FI NAYL-UL-AWTAR MIN ASRAR MUNTAQA AL-AKHBAR, 06/313.

AL-HADITH RAQM 55: AKHRAJAHU IBN SA'D FI AT-TABAQAT-UL-KUBRA, 08/100,

DHAHABI FI SIYAR A'LAM AN-NUBALA', 02/223,

IBN JAWZI FI SIFAT-US-SAFWAH, 02/46,

ASQALANI FI AL-ISABAH, 07/653.

فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَيَّ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ طَوْتُهُ دُونَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ،  
 أَرَعَيْتِ بِهَذَا الْفِرَاشِ عَنِّي أَوْ بِي عَنْهُ، فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ،  
 وَأَنْتَ امْرُؤٌ نَجِسٌ مُشْرِكٌ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَقَدْ أَصَابَكَ بَعْدِي شَرٌّ. رَوَاهُ  
 ابْنُ سَعْدٍ.

“Imam Zuhri Bayan Karte Hain Ki Jab Aboo Sufyaan Bin Harb Madinah Aaya To Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Men Bhi Haazir Huwa Jab Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Makkah Par Hamla Karna Chhahte The. Aboo Sufyan Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Sulhe Hundaybiyah Ke Muaahde Men Tausi’ Ke Liye Guzaarish Kee Lekin Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Inkaar Farma Diya, Pas Woh Khada Huwa Aur Apni Beti Ke Paas Chala Gaya Lekin Jab Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Beestar Par Baithne Ke Liye Badha To Umm-ul-Mu’minin Hazrat Umme Habibah RadiyAllahu ‘Anha Ne Us Ke Baithne Se Pehle Hee Woh Bistar Lapet Diya. Us Ne Kaha: Ae Meri Beti! Kya Too Is Bistar Kee Waj’h Se Mujh Se Nafrat Karti Hai Ya Meri Waj’h Se Us Bistar Se? Unhone Kaha Yeh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Bistar Hai Aur Tum Ek Najis Aur Mushrik Insaan Ho (Yeh Sun Kar) Us Ne Kaha: Ae Meri Beti! Albatta Mere Ba’d Tum Shar Men Muftala Ho Ga’i Ho.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Sa’d Ne Riwayat Kiya Hai.



## 6. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Sawdah Raḍiya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

56/327. عَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَا سَفَرًا أَفْرَعُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَ لَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Jab Safar Ka Iraadah Farmate To Apni Azwaaje Mutahharaat Ke Darmiyaan Qur'ah (Chitthi Daalna) Daalte Ki Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Jaane Ke Liye Kis Ke Naam Qur'ah Nikalta Hai Aur Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ke Darmiyan Ek Raat Din Kee Baari Muqarrar Farmaa'i Hu'i Thi,

AL-HADITH RAQM 56: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 01/I81,

RAQM-2453,

BUKHARI FI AS-SAHIH, 02/955, RAQM-2542,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 02/243, RAQM-2138,

NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/292, RAQM-8923.

Ma-Siwa'e Us Ke Ki Hazrat Sawdah Bint Zam'ah Ne Apni Baari Umm-ul-Mu'minin Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Ko Dee Hu'i Thi Aur Us Se Un Ka Maqsood Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Rizamandi Thi."

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.

57/328. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسْلَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حَدَّةٌ قَالَتْ: فَلَمَّا كَبُرْتُ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَ يَوْمَ سَوْدَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki Mujhe Azwaaje Mutahharaat Men Sab Se Ziyaada Hazrat Sawdah Bint Zam'ah RadiyAllahu 'Anha Aziz Thi'n, Meri Tamanna Thi Ki Kaash Men Un Ke Jism Men Hoti, Hazrat Sawdah Bint Zam'ah Ke Mizaaj Men Tezi Thi, Jab Woh Buddhi Ho Ga'in To Unhone RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Din Kee Baari Hazrat Aa'ishah RadiyAllahu 'Anha Ko De Dee Aur Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Main Ne Apni Baari Aa'ishah Ko De Dee Hai, Phir RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Aa'ishah Ke

AL-HADITH RAQM 57: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 02/1085,

RAQM-I463,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 10/12, RAQM-4211,

NASA'I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/301, RAQM-8934,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/74, RAQM-I3211.

Haa'n Do-02 Din Rehte The, Ek Din Hazrat Aa'ishah Kee Baari Ka Aur Ek Din Hazrat Sawdah Kee Baari Ka.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

## 7. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Zaynab Radiya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

58/329. عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذَكَرَ تَزْوِيجَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ  
فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَيَّ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ  
بِشَاةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥazrat Thabit Ka Bayaan Hai Ki Ḥazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Ke Paas Ḥazrat Zaynab Bint Jahsh RadiyAllahu ‘Anha Ke Nikaah Ka Zikr Huwa To Unhone Farmaya Ki Main Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Kisi Zaujāh Mutahharah Ka Un Ke Walima Jaisa Kisi Ka Walima Karte Huwe Nahin Dekha, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ka Ek Bakri Ke Saath Walima Kiya.”

Yeh Ḥadith Muttafaq Alaih Hai.

AL-HADITH RAQM 58: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/1983,

RAQM-4876,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 02/1049, RAQM-I428,

ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/341, RAQM-3743,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 07/258, RAQM-I4277.

59/330. عَنْ عَيْسَى بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأُطْعِمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ حُبْزًا وَ لَحْمًا، وَ كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَي نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Imam Isa Bin Tahmaan Ka Bayaan Hai Ki Main Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Ko Farmate Huwe Suna Ki Parde Kee Aayat Hazrat Zaynab Bint Jahsh RadiyAllahu ‘Anha Ke Haq Men Naazil Hu’i Aur Un Ke Walima Men Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Roti Aur Gosht Khilaaya Aur Yeh (Hazrat Zaynab RadiyAllahu ‘Anha) Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Baaqi Azwaaje Mutahharaat Par Fakhriya Karta Thi’n Aur Kaha Karta Thi’n Ki Allah Ta’ala Ne Mera Nikaah Aasmaan Par Kiya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.

60/331. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: رَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَ رَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

AL-HADITH RAQM 59: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 06/2700, RAQM-6985.

AL-HADITH RAQM 60: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 06/2699, RAQM-6984,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA MUKHTASARAN, 05/291, RAQM-8918.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Hazrat Zaynab RadiyAllahu ‘Anha, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Tamam Azwaaje Mutahharaat Se Fakhr Kiya Karti Thi’n Ki Tumhaara Nikaah Tumhaare Ghar Waalo’n Ne Kiya Aur Mera Nikaah Allah Ta’ala Ne Saat-07 Aasmaanon Ke Oopar Kiya.”

Is Hadith Ko Imam Bukhari Ne Riwayat Kiya Hai.

61/332. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا، قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِإِنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَّقُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Umm-ul-Mu’minin Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Meri Wafaat Ke Ba’d Jannat Men) Tum Sab Se Ziyaada Jald Woh Biwi Milegi, Jis Ke Haath Tum Sab Men Se Ziyaada Lambe Honge, Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Phir Ham Sab Apne Apne Haath Naapne Lagi’n Ki Kis Ke Haath Sab Se Ziyaada Lambe Hain, Lekin Sab Se Ziyaada Lambe Haath Hazrat Zaynab RadiyAllahu ‘Anha Ke The, Kyun Ki Woh Apne Haatho’n Se Kaam Kiya Karti Thi’n Aur Sadaqa-o Khairaat Kiya Karti Thi’n.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

62/333. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ: فَارْتَسَلَتْ أَرْوَاحُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرِ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَانْتَقَى اللَّهُ، وَاصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِدَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى، مَا عَدَا سُورَةَ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفِيءَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Hazrat Aa’ishah Siddiqah RadiyAllahu ‘Anha Ek Taweel Hadith Men Bayaan Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Azwaaje Mutahharaat Ne Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Zaujah Mutahharah Hazrat Zaynab Bint Jahsh RadiyAllahu ‘Anha Ko Aap Ke Paas Bheja Aur Wohi Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ke Nazdik Martabah Men Mere Baraabar Thi’n Aur Main Ne Hazrat Zaynab Se Ziyaada Deen-Daar, Allah Se Darne Waali, Sach Baat Kehne Waali, Sila’e Rahimi Karne Waali, Sadaqa-o Khairaat Karne Waali Koi Aurat Nahin Dekhi, Aur Na Un Se Ziyaada Tawaazu’ Karne Waali Koi Aurat Dekhi Hai, Is Amal Men Jis Ke Zari’e Woh Sadaqa Karti’n Aur Allah Ka Qurb Haasil Karti’n Thi’n, AlBatta Woh Zabaan Kee Tez Thi’n Lekin Us Se Bhi Woh Bohat Jald Ruzoo’ Kar Leti Thi’n.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

63/334. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَوَْاهَةٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْأَوَْاهَةُ؟ قَالَ: الْخَاشِعَةُ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالذَّهَبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

“Hazrat Abd Allah Bin Shaddad Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Umar RadiyAllahu ‘Anhu Se Farmaya: Be-Shak Zaynab Bint Jahsh “Awwaahah” Hai Arz Kiya Gaya: Ya RasoolAllah ﷺ! Awwaahah Ka Kya Matlab Hai, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Khaashiah (Khushoo’-o Khuzoo’ Karne Waali).”

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu’aym, Ibn Abd Al-Barr Aur Dhahabi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Yeh Alfaaz Dhahabi Ke Hain.

---

AL-HADITH RAQM 63: AKHRAJAHU ABOO NU’AYM FI HILYAT-UL-AWLIYA’ WA TABAQAT-UL-ASFIYA’, 02/54,

IBN ABD-IL-BARR FI AL-ISTI’AB, 04/1852, RAQM-3355,

DHAHABI FI SIYAR A’LAM AN-NUBALA’, 02/217.

---



## 8. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ

### الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Maymūnah Rādiya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

64/335. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ:

مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُخْتَهَا أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَأُخْتَهَا

سَلْمَى بِنْتِ الْحَارِثِ امْرَأَةَ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمَيْسٍ أُخْتُهُنَّ لِأُمَّهِنَّ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالطَّبْرَانِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tamam Momin Aurate’n Apas Men Behne’n Hain (Phir Farmaya) Umm-ul-Mu’minin Maymoonah, Is Kee Bahen Umme Fadl Bint Haarith, Aur Us Kee Bahen Salma Bint Haarith

AL-HADITH RAQM 64: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA

SAHIHAYN, 04/35, RAQM-6801,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 05/103, RAQM-8387,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, II/415, RAQM-12178,

HAYTHAMI FI MAJMA’-UZ-ZAWA’ID WA MANBA’-UL-FAWA’ID,

09/249.

Hamzah Kee Biwi Aur Asma' Bint Umays Un Kee Akhyaafi Bahen Hain.”

Is Hadith Ko Imam Nasa'i, Haakim, Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai Niz Alfaaz Imam Hakim Ke Hain. Aur Imam Haakim Ne Famaya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

## 9. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جَوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Juwariyah Radiya  
Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

65/336. عَنْ جَوَيْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ. فَقَالَ: مَا زِلْتُ عَلَيَّ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتِكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ، وَوَدَادَ كَلِمَاتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتَّنَسَائِيُّ.

“Hazrat Juwayriyah RadiyAllahu ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Namaze Fazr Padhne Ke Baa’d Alal-Sub’h Hee Un Ke Paas Se Chale Ga’e Aur Woh Us Waqt Apni Namaz Kee Jagah Men Baithi Thi’n, Phir Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Din Chadhe Tashrif Laa’e Aur Woh Wahi’n Baithi Thi’n. Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala

AL-HADITH RAQM 65: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 04/2090,

RAQM-2726,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/I25I, RAQM-3808,

NASA’I FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 06/48, RAQM-9989,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 03/IIO, RAQM-828.

Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jis Waqt Se Main Tum Ko Chhod Kar Gaya Hoo'n Tum Usi Tarh Baithi Ho, Hazrat Juwayriyah Ne Arz Kiya: Ji Haa'n! Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Ne Tumhaare Baa'd Chaar-04 Aise Kalimaat Teen-03 Baar Kahe Hain Ki Jo Kuchh Tum Ne Sub'h Se Ab Tak Padha Hai Agar Us Ka Un Kalimaat Ke Saath Wazn Karo To Un Kalimaat Ka Wazn Ziyaada Hoga: Woh Kalimaat Yeh Hain: سبحان الله و  
 Allah Kee Hamd Aur Tasbeeh Hai, Us Kee Makhloq Ke Adad Aur Us Kee Riza Aur Us Ke Arsh Ke Wazn Aur Us Ke Kalimaat Kee Raushana'i Ke Baraabar”.

Is Hadith Ko Imam Muslim, Ibn Majah Aur Nasa'i Ne Riwayat Kiya Hai.

66/337. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَّةُ اسْمَهَا بَرَّةٌ، فَحَوَّلَ رَسُولُ  
 اللَّهُ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَّةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. رَوَاهُ  
 مُسْلِمٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu 'Anhuma Bayan Karte Hain Ki Juwayriyah Ka Naam Pehle Barrah Tha, Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ka Naam Tabdeel Kar Ke Juwayriyah Rakh Diya, Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Is Ko Na-Pasand Farmate The Ki Kaha Jaa'e Ki Fula'n Shakhs Barrah (Neki) Ke Paas Se Nikal Gaya.”

---

AL-HADITH RAQM 66: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 03/1687,

RAQM-2140,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/316, RAQM-2902,

BAYHAQI FI SHU'B-UL-IMAN, 01/424, RAQM-604.

---

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

## 10. فَضْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةِ بِنْتِ حُيَيِّ

بْنِ أَخْطَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿Ummu Al-Mu'minīn Ḥazrat Ṣafīyah Raḍīya

Allāhu 'Anhā Ke Manāqib Kā Bayān﴾

67/338. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَ جَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabīyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Safiyyah Ko Raha Farmaya Aur Un Kee Rahaa’i Ko Un Ka Haqqe Mahr Banaaya.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

68/339. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ: أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ هِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟

AL-HADITH RAQM 67: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 05/1956, RAQM-4798,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 02/1045, RAQM-1365,

ABD-UR-RAZZAQ FI AL-MUSANNAF, 07/269, RAQM-13107.

AL-HADITH RAQM 68: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/709, RAQM-3894,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/135, RAQM-12415,

MUBARKFOORI FI TUHFAT-UL-AHWADHI, 10/268.

قَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةَ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ  
 لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيٍّ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفَخَّرَ عَلَيْكَ، ثُمَّ  
 قَالَ: اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.  
 وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hazrat Safiyyah RadiyAllahu ‘Anha Ko Pata Chala Ki Hazrat Hafsa RadiyAllahu ‘Anha Ne Unhe’n Yahoodi Ke Beti Kaha Hai. Woh Ro Padi’n Itne Men Un Ke Paas Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Tashrif Laa’e. Woh Ro Rahi Thi’n, Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Poochha Kyun Ro Rahi Ho? Arz Kiya: Hafsa Ne Mujhe Yahoodi Kee Beti Kaha Hai. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tum Nabi Kee Beti Ho, Tumhare Chacha Nabi Hain Aur Nabi Kee Biwi Ho. Pas Woh Kis Baat Men Tum Par Fakhr Karti Hain. Phir Farmaya: Hafsa! Allah Ta’ala Se Daro (Aur Is Tarh Kee Baate’n Na Karo).”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

69/340. عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ حُيَيِّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ قَدْ  
 بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَ عَائِشَةَ كَلَامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَلَا قُلْتُ:

AL-HADITH RAQM 69: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 05/708,  
 RAQM-3892,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/31, RAQM-6790,

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-AWSAT, 08/236, RAQM-8503,

فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِّنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَ أَبِي هَارُونَ وَ عَمِّي مُوسَى .  
الحديث . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ .

“Hazrat Safiyyah Bint Huyay RadiyAllahu ‘Anha Se Riwayat Hai Farmati Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Mere Paas Tashrif Laa’e. Mujhe Hazrat Hafsah RadiyAllahu ‘Anha Aur Hazrat Aa’ishah RadiyAllahu ‘Anha Kee Taraf Se Ek Baat Pahonchi Thi. Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Zikr Kiya To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tum Ne Yeh Kyun Nahin Kaha Ki Tum Dono’n Mujh Se Kaise Behtar Ho Sakti Ho Jab Ki Mere Shauhar Hazrat Muhammad SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam, Mere Baap Hazrat Haroon عَلَيْهِ السَّلَام, Aur Mere Chacha Hazrat Moosa عَلَيْهِ السَّلَام Hain.”

Ise Imam Tirmidhi Aur Haakim Ne Riwayat Kiya Hai.

70/341 . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ صَفِيَّةَ مِنْ الصَّفِيِّ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

---

TABARANI FI AL-MU’JAM-UL-KABIR, 24/75, RAQM-196.

AL-HADITH RAQM 70: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 03/152,  
RAQAM2994,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, II/151, RAQM-4822,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 03/42, RAQM-4345,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 06/304, RAQM-12534.



“Hazrat Aa'ishah Siddiqah RadiyAllahu 'Anha Bayan Karti Hain Ki Hazrat Safiyyah Maale Ghanimat Ka Woh Hissa Hain Jinhe'n Aaqa ﷺ Ne Apne Liye Muntakhab Farmaya.”

Ise Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

al-Bābu al-Sādisu:

مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

﴿Imām Muḥammad Mahdī ‘Alayhi

Al-Salām Ke Manāqib﴾

# 1. فَضْلٌ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Kā  
Ahle Baite Aṭḥār Men Se Hone Kā Bayān﴾

1/342. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى

يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Dunya Us Waqt Tak Khatm Na Hogi Yaha’n Tak Ki Meri Ahle Bait Men Se Ek Shakhs Arab Ka Badshah Ho Jae Jis Ka Naam Mere Naam Ke Mutaabiq (Ya’ni Muhammad Hoga).”

Ise Imam Tiridhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai, Aur Imam Tirmidhi Kehte Hai Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM I: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 04/505,  
RAQM-2230,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/376, RAQM-3571,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 05/204, RAQM-1803,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/488, RAQM-8364.

2/343. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْمَهْدِيُّ مِنْ عِزَّتِي مَنْ وَلَدَ فَاطِمَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Umm-ul-Mu’minin Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Farmati Hain Ki Main Ne RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Mahdi Meri Nasl Aur Fatimah Kee Aulaad Se Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

3/344. عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَنَظَرَ إِلَيَّ ابْنُهُ الْحَسَنُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمِّي بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ ﷺ يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Apne Bete Hazrat Hasan RadiyAllahu ‘Anhu Ko Dekha Aur Farmaya: Mera Yeh Beta Sardar Hoga Jaisa Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Is Ka Naam Rakha Hai Aur An-Qarib Is Kee Nasl Se Ek Aisa Shakhs Paida Hoga Aur Us Ka Naam Tumhaare Nabi Ke Naam Ke Muwaafiq Rakha Jaa’eg Aur Seerat Men Bhi Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se MushaabiH Hoga.

AL-HADITH RAQM 2: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/107,

RAQM-4284,

IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1368, RAQM-4086,

DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 04/223, RAQM-6670.

AL-HADITH RAQM 3: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/108,

RAQM-4290.

Magar Soorat Men Mushaabih Na Hoga. Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Ne Waaqe'a Bayaan Farmaaya Ki Woh Aisa Shakhs Hoga Jo Zameen Ko Adl Se Bhar Dega.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

4/345. عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصَلِّحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta'ala Waj'hah-ul-Karim Se Marwi Hai Ki RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mahdi Ham Men Se Hoga. Ya'ni Ahle Bait Men Se, Allah Ta'ala Use Ek Raat Men (Khilaafat-o Mahdiyyat Kee) Salaahiyyat Ata' Farma Dega.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

5/346. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَحْنُ وَكَأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، سَادَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

---

AL-HADITH RAQM 4: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1367, RAQM-4085,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 01/84, RAQM-645,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/513, RAQM-37644,

BAZZAR FI AL-MUSNAD, 02/243, RAQM-644.

AL-HADITH RAQM 5: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1368, RAQM-4087.

“Hazrat Anas RadiyAllahu ‘Anhu Bayaan Karte Hain Ki Main Ne RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Khud Farmaate Suna Hai Ki Ham Hazrat Abd-ul-Muttalib Kee Aulaad Ahle Jannat Ke Sardaar Honge. Ya’ni Main Hamzah, Ali, Ja’far, Hasan, Husayn Aur Mahdi Alayhium-us-Salam.”

Ise Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

## 2. فَصْلٌ فِي عِلَامَاتِ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

### ﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Ke Zuhūr Kī ‘Alāmāt Kā Bayān﴾

6/347. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجَبِّي إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلَا دِرْهَمٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجَبِّي إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مَدٌّ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيْفَةٌ يَحْتِشِي الْمَالَ حَيْثِيًّا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَ أَبِي الْعَلَاءِ: أَ تَرَيَانِ أَنَّهُ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا: لَا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Abi Nadrah RadiyAllahu ‘Anhu Taabi’i Bayan Karte Hain Ki Ham Hazrat Jaabir Bin Abd Allah RadiyAllahu ‘Anhuma Kee Khidmat Men The Ki Unhone Farmaya: Qarib Hai Woh Waqt Jab Ahle Shaam Ke Paas Na Dinar Laa’e Jaa Sakege Aur Na Hee Gallah, Ham Ne Poochha Yeh Bandish Keen Logo’n Kee Jaanib Se Hogi? Hazrat

AL-HADITH RAQM 6: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIIH, 04/2234,  
RAQM-2913,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/317, RAQM-I4446,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIIH, 15/75, RAQM-6682.

Jaabir RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya: Rumiyon Kee Taraf Se. Phir Thodi Der Khaamosh Reh Kar Farmaya: RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Farman Hai Ki Meri Ummat Ke Aakhiri Daur Men Ek Khalifa (Mahdi عَلَيْهِ السَّلَام) Hoga Jo Maal Labalab Bhar Bhar Ke Dega, Aur Use Shumaar Nahin Karega. Is Hadith Ke Raawi Al-Jurayri Kehte Hain Ki Main Ne (Apne Shaykh) Aboo Nadrah Aur Aboo Ala’ Se Daryaaft Kiya: Kya Aap Hazaaat Kee Raa’e Men Hadise Pak Men Mazkooor Khalifa Hazrat Umar Bin Abd-ul-Aziz Hain? To Un Dono’n Hazaraat Ne Farmaya: Nahin, (Yeh Khalifa Hazrat Umar Bin Abd-ul-Aziz Rahimahullahi Ta’ala Alayh Ke Ilawah Honge).”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

7/348. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي قَالَ عَاصِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya. Mere Ahle Bait Men Se Ek Shakhs Khalifa Hoga Jis Ka Naam Mere Naam Ke Muwaafiq Hoga. Hazrat



Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Ek Riwayat Men Hai Ki Agar Dunya Ka Ek Hee Deen Baaqi Rah Jaa’ega To Bhi Allah Ta’ala Usi Ek Din Ko Itana Daraaz Farma Dega Yaha’n Tak Ki Woh Shakhs (Ya’ni Mahdi عليه السلام) Khalifa Ho Jaa’e.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Sahih Hai.

8/349. عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمُ. لَأُهَا عَدْلًا كَمَا مِلْتُ جَوْرًا.  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Agar Dunya Ka Sirf Ek Din Baaqi Rah Jaa’ega (To Allah Ta’ala Usi Ko Daraaz Farma Dega Aur) Meri Ahle Bait Men Se Ek Shakhs (Mahdi عليه السلام) Ko Paida Farma’ega. Jo Dunya Ko Adl-o Insaaf Se Bhar Dege Jis Tarh Woh (Un Se Pehle) Zulm Se Bhari Hogi.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

9/350. عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَفْتَتِلُ كَنْزَكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَيَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ

---

AL-HADITH RAQM 8: AKHRAJAHU ABDOO DAWOOD FI AS-SUNAN,  
04/107, RAQM-4283,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/513, RAQM-37648.

AL-HADITH RAQM 9: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1367,  
RAQM-4084,

مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ  
فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَيَّ التَّلْحِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ.  
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ.

“Hazrat Thawbaan RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Unhone Farmaya Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jab Tum Khuraasaan Kee Taraf Se Siyaah Parchamon (Ka Qaafilah) Aate Huwe Dekho To Us Men Zaroor Shaamil Ho Jaana Agarcheh Barf Par Ghisat Kar Aana Pade Kyun Ki Us Men Allah Ta’ala Ke Khalifa Mahdi Honge.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

10/351. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُوشِكُ مِنْ عَاشٍ مِنْكُمْ  
أَنْ يَلْقَى عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًا حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ،  
وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجَزِيَّةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا.  
رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Qareeb Hai Ki Jo Tum Men Se Zinda Ho Woh Isa Ibn Maryam Se Us Ke Imam Mahdi Hakam Wa Adl Hone Kee Haalat Men

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/277, RAQM-2244I,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/510, RAQM-8432.

AL-HADITH RAQM IO: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 02/41I.

Mulaaqaat Karega Woh Isa Ibn Maryam Salib Ko Todega Aur Khinzir Ko Qatl Karega Aur Jizyah Mauqoof Kar Dega Aur Ladaa'i Apne Auzaar Rakh Degi.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

11/352. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءٌ أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمْ الْأَرْضُ الرَّحْبَةَ وَحَتَّى تُمَلَأَ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا: لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأً يَلْتَجِي إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَجُلًا مِنْ عِزَّتِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِئْتَ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَ سَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدَّخِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَدْرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ وَ لَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا يَعِيشُ فِيهِمْ سِنَعٌ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ تَمْنِي الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ. رَوَاهُ الْعَاكِمُ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aakhiri Zamaane Men Meri Ummat Par Un Kee Quadrat Se Ziyaada Balaae'n Naazil Hongi. Us Se Shadeed Balaae'n Pehle Na Suni Ga'i Hogi. Yaha'n Tak Ki Zameen Apni Wus'at Ke Ba-

Wajood Un Par Tang Ho Jaaegi Aur Zameen Zulm-o Sitam Se Bhar Jaaegi. Momin Koi Aisa Thikaana Na Paaega Jaha'n Woh Zulm Kee Fariyaad Le Kar Jaae. Pas Allah Ta'ala Meri Aulaad Men Se Ek Aadami Ko Bhejega Jo Zameen Ko Adl-o Inasaaf Se Bhar Dega Jaisa Ki Pehle Zulm-o Sitam Se Bhari Thi. Zameen-o Aasmaan Men Rehne Waale Us Se Raazi (Khush) Honge. Zameen Apne Andar Padne Waala Har Daana Oogaa'egi Aur Allah Ta'ala Aasmaan Men Maujood Har Qatre Ko Moosaladhar (Baarish) Kee Soorat Men Barsaaega. Woh Un Men Saat, Aath Ya Nau Saal Rahega Aur Zinda Log Allah Ke Is Karam Ke Sabab Ahle Zameen Par Kiya Murdon Kee Tamanna Kareng (Kaash Woh Zinda Hote).”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Woh Farmate Hain Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnaad Hai.

12/353. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَيَضْرِبُهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَيَّ الْحَقِّ، قُلْتُ: وَ كَمْ يَمْلِكُ؟ قَالَ: خَمْسًا وَ ائْتَيْنِ.  
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Unhone Farmaya: Mujhe Mere Khalil Aboo Al-Qaasim SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Qiyamat Us Waqt Tak Qaa'im Nahin Hogi Jab Tak Ki Mere Ahle Bait Men Se Ek Shakhs

---

AL-HADITH RAQM 12: AKHRAJAHU ABOO YA'LA FI AL-MUSNAD, 12/19,

RAQM-3335,

HAYTHAMI FI MAJMA'UZ-ZAWA'ID WA MANBA'UL-FAWA'ID,

07/315.

Zaahir Na Honge Jo Logo'n Ka Muqaabala Karenge Hatta Ki Woh Haq Kee Taraf Rujoo' Kar Lenge." Main Ne Arz Kee: Woh Kitna Arsah Baadshaah Rahenge? Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Paanch Aur Do (Ya'ni Saat Saal)."

Is Hadith Ko Imam Aboo Ya'la Ne Riwayat Kiya Hai.

13/354. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَقُولُ: بِسُنَّتِي، يُنَزِلُ اللَّهُ لَهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَتُخْرَجُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ بَرَكَتِهَا، تُمَلَأُ الْأَرْضُ مِنْهُ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَعْمَلُ عَلَيَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُنَزِلُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

"Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu Se Marwi Hai Unhone Farmaya: Main Ne RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Irshaad Farmate Huwe Suna: Mere Ahle Bait Men Se Ek Shakhs Zaahir Honge Jo Meri Sunnat Kee Baat Karenge, Allah Rabb-ul-Izzat Un Ke Liye Aasmaan Se Baarish Barsaega Aur Zameen Un Ke Liye Apni Barakaat Nikaal Degi (Ya'ni Apne Khazaane Ugal Degi). Zameen Un Ke Zari'e Adl-o Insaaf Se Bhar Jaaegi Jis Tarh Pehle Woh Zulm-o Sitam Se Bhari Hogi. Woh Is Ummat Par Saat Saal Tak Hukoomat Karenge Aur Bayt-ul-Maqdis Men Nuzool Farma'enge."

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

14/355. خَيْلَانٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: مِنْ وَلَدِي  
ابْنِ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ وَجْهَهُ كَوَكْبٍ دُرِّيٍّ فِي حَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالَ أَسْوَدُ  
عَلَيْهِ عِبَاءٌ تَانٍ قُعْوَايَتَانِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً  
يَسْتَنْخَرُجُ الْكُنُوزَ وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Umaamah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhare Aur Rome Ke Darmiyan Chaar Martaba Sulh Hogi. Chauthi Sulh Aise Shakhs Ke Haath Par Hogi Jo Aale Hiraql Se Hoga Aur Yeh Sulh Saat Saal Tak Baraabar Qaa’im Rahegi. RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Poochha Gaya Ki Us Waqt Musalmanon Ka Imam Kaun Shakhs Hoga? Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Woh Shakhs Meri Aulaad Men Se Hoga Jis Kee Umr Chaalis Saal Kee Hogi. Us Ka Chehra Sitaare Kee Tarh Chamakdaar, Us Ke Daae’n Rukhsaar Par Siyaah Teel Hoga, Aur Do Qatwaani Abaae’n Pehne Hoga, Bilkul Aisa Ma’loom Hoga Jaisa Bani Israil Ka Shakhs, Woh Bees Saal Hukoomat Karega, Zameen Se Khazaanon Ko Nikaalega Aur Mushrikin Ke Shehro’n Ko Fat’h Karega.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

3. فَضْلٌ فِي آدَاءِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

صَلَاتُهُ وَرَأَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

﴿Hāzrat ‘Īsā Ibn Maryam ‘Alayhi Al-Salām Kā  
Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Ke Pīḥe Namāz  
Adā Karne Kā Bayān﴾

15/356. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Hāzrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tum Logo’n Ka Us Waqt (Khushi Se) Kya Haal Hoga Jab Tum Men Isa Ibn Maryam عليه السلام (Aasmaan Se) Utarenge Aur Tumhaara Imaam Tum Hee Men Se Hoga.”

Yeh Hadith Muttafaq Alaih Hai.

16/357. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَيَّ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَيَّ يَوْمَ

AL-HADITH RAQM 15: AKHRAJAHU AL-BUKHARI FI AS-SAHIH, 03/1272,

RAQM-3265,

MUSLIM FI AS-SAHIH, 01/136, RAQM-155,

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/213, RAQM-6802.

AL-HADITH RAQM 16: AKHRAJAHU MUSLIM FI AS-SAHIH, 01/137, RAQM-

156,

الْقِيَامَةَ قَالَ: وَيَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَيَّ بَعْضٌ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ.

“Hazrat Jaabir Bin Abd Allah Ansari RadiyAllahu ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Main Ne RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Meri Ummat Men Se Ek Jama’at Qiyame Haq Ke Liye Kaamyab Jang Qiyamat Tak Karti Rahegi Hazrat Jaabir RadiyAllahu ‘Anhu Kehte Hain: Un Mubarak Kalimaat Ke Ba’d Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Aakhir Men (Hazrat) Isa Ibn Maryam عَلَيْهِ السَّلَام Aasmaan Se Utareng To Musalmanon Ka Ameer, Un Se Arz Karega Tashreef Laa’i’e Hame’n Namaz Padhaa’iye Is Ke Jawaab Men Hazrat Isa عَلَيْهِ السَّلَام Farma’enge: (Is Waqt) Main Imamat Nahin Karunga. Tum Men Se Baaz, Baaz Par Ameer Hai (Ya’ni Hazrat Isa عَلَيْهِ السَّلَام Us Waqt Imamat Se Inkar Farma Denge Is Fazeelat-o Buzurgi Kee Bina Par Jo Allah Ta’ala Ne Is Ummat Ko Ata’ Kee Hai).”

Is Hadith Ko Imam Muslim Aur Ibn Hibban Ne Riwayat Kiya Hai.

17/358. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي الْعَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلَّهُمُ

IBN HIBBAN FI AS-SAHIH, 15/231, RAQM-6819,

BAYHAQI FI AS-SUNAN-UL-KUBRA, 09/180,

ABOO ‘AWANAH FI AL-MUSNAD, 01/99, RAQM-317.

AL-HADITH RAQM 17: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1361,  
RAQM-4077.



بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عَيْسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فِيصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَهْدِيُّ كَمَا جَاءَ التَّصْرِيحُ بِهِ.

“Hazrat Aboo Umamah RadiyAllahu ‘Anhu RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Ek Taweel Hadith Riwayat Karte Hain Jis Men Hai Ki Ek Sahabiyah Umme Sharik Bint Abi Akr RadiyAllahu ‘Anha Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam! Arab Us Waqt Kaha’n Honge. (Matlab Yeh Hai Ki Ahle Arab Deen Kee Himaayat Men Muqabale Ke Liye Kyun Saamne Nahin Aa’enge) To RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Arab Us Waqt Kam Honge Aur Un Men Bhi Akshar Bayt-ul-Maqdis (Ya’ni Shaam) Men Honge Aur Un Ka Imam Wa Ameer Ek Rajul Saaleh (Mahdi) Hoga. Jis Waqt Un Ka Imam Namaze Fajr Ke Liye Aage Badhega Achaanak (Hazrat) Isa Ibn Maryam ﷺ Usi Waqt (Aasmaan Se) Utarenge. Imam Pichhe Hatega Taaki (Hazrat) Isa ﷺ Namaz Padha’en. Hazrat Isa ﷺ Imam Ke Kandhon Ke Darmiyan Haath Rakh Kar Farmaa’enge: Aage Badho Aur Namaz Padhaa’o Kyun Ki Tumhaare Hee Liye Iqamat Kahi Ga’i Hai To Un Ke Imam (Mahdi) Logo’n Ko Namaz Padha’enge.”

Isse Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai Aur Is Kee Isnaad Qawi Hain Aur Hadith Men Jo Ke "Imamهم رجل صالح" Alfaaz Aa’e Hain To Is Se

Muraad Imam Mahdi ﷺ Hain Jaisa Ki Is Ka Zikr Saraahatan Bhi Aaya Hai.

Is Hadith Ko Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

18/359. عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْمُّ عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Imam Ibn Sirin Se Riwayat Hai Ki (Imam) Mahdi Isi Ummat Men Se Honge Aur Isa Ibn Maryam ﷺ Kee Imamat Sar-Anjaam Denge.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.

## 4. فَضْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ

### عَدْلًا

﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Kā

Zamīn Ko ‘Adl-o Inṣāf Se Bhar Dene Kā Bayān﴾

19/360. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَمْلَأُ

الْأَرْضَ جَوْرًا وَظُلْمًا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي فَيَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمْلَأُ  
الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Aakhiri Zamaane Men) Zameen Jor-o Zulm Se Bhar Jaaegi To Meri Aulaad Se Ek Shakhs Paida Hoga Aur Saat Saal Ya Nau Saal Khilaafat Karega (Aur Apne Zamaana’e Khilafat Men) Zameen Ko Adl-o Insaaf Se Bhar Dega Jis Tarh Us Se Pehle Woh Jor-o Zulm Se Bhar Ga’i Hogi.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Hakim Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih Hai.

---

AL-HADITH RAQM 19: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/70, RAQM-II683,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/601, RAQM-8674.

---

[www.TahirulQadiriBooks.com](http://www.TahirulQadiriBooks.com)

20/361. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ب. لَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءٌ أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمْ الْأَرْضُ الرَّحْبَةَ، وَ حَتَّى يَمْلَأَ الْأَرْضَ جَوْرًا وَ ظُلْمًا: لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأً يَلْتَجِيئُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عِزَّتِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَ سَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدَّخِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَدْرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، يَعِيشُ فِيهَا سِنْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ، تَتَمَنَّى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَ قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Badi Aazma’ish Ka Zikr Farmaya Jo Is Ummat Ko Pesh Aane Waali Hai. Ek Zamaane Men Itna Shadeed Zulm Hoga Ki Kahin Panaah Kee Jagah Na Milegi. Us Waqt Allah Ta’ala Meri Aulaad Men Ek Shakhs Ko Paida Farma’ega Jo Zameen Ko Adl-o Insaaf Se Phir Waisa Hee Bhar Dega Jaisa Woh Pehle Julm-o Jor Se Bhar Chuki Hogi. Zameen Aur Aasmaan Ke Rehne Waale Sab Un Se Raazi Honge, Aasmaan Apni Tamam Baarish Moosaladhar Barsaega Aur Zameen Apni Sab Paidawar Nikaal Kar Rakh Degi Yaha’n Tak Ki Zinda Logo’n

Ko Tamanna Hogi Ki Un Se Pehle Jo Log Tangi Wa Zulm Kee Haalat Men Guzar Ga'e Hain Kaash Woh Is Sama'n Ko Dekhte Isi Barakat Ke Haal Par Woh Saat Ya Aath Ya Nau Saal Tak Zinda Rahenge.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Woh Kehte Hain Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

21/362. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ. إِنَّ قَصْرَ فَسْبَعٍ وَإِلَّا ثَمَانٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ تُنْعَمُ أُمَّتِي فِيهَا نِعْمَةٌ لَمْ يُنْعَمُوا مِثْلَهَا: يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَلَا تَدْخُرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنَ النَّبَاتِ، وَالْمَالُ كَدُّوسٍ يَقُومُ الرَّجُلُ يَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ، أُعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْهُ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Men Ek Mahdi Hoga (Un Kee Muddate Khilafat) Agar Kam Hu’i To Saat Ya Aath Ya Nau Saal Hogi. Meri Ummat Un Ke Zamaane Men Is Qadr Khush-Haal Hogi Ki Utni Khush-Haali Use Kabhi Na Mili Hogi. Allah Ta’ala Aasmaan Se (Hasbe Zaroorat) Moosaladhar Baarish Barsa’ega Aur Zameen Apni Tamam Paidawaar Ko Uгаа Degi. Ek Shakhs Khada Ho Kar Maal Ka Sawaal Karega To Mahdi Kahenge (Apni Hasbe Khwaahish Khazaane Men Jaa Kar) Khud Le Lo.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Bayan Kiya Hai.

22/363. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ  
 أَمْ مِنْ غَيْرِنَا؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ مِنَّا، يَخْتِمُ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ كَمَا فَتَحَ بِنَا، وَبِنَا  
 يُنْقِذُونَ مِنَ الْفِتْنَةِ كَمَا أَنْقَذُوا مِنَ الشِّرْكِ، وَبِنَا يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
 بَعْدَ عَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ، كَمَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عَدَاوَةِ الشِّرْكِ، وَبِنَا  
 يُصْبِحُونَ بَعْدَ عَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ إِخْوَانًا كَمَا أَصْبَحُوا بَعْدَ عَدَاوَةِ الشِّرْكِ  
 إِخْوَانًا فِي دِينِهِمْ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

“Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’ah-ul-Karim Se Marwi Hai Aap Ne Farmaya: Main Ne (Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Men) Arz Kee: Ya RasoolAllah ﷺ! Kya (Imam) Mahdi Ham Aale Muhammad Men Se Honge Ya Hamaare Ilaawa Kisi Aur Se? To Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Irshaad Farmaya: Nahin, Balki Woh Ham Hee Men Se Honge. Allah Rabb-ul-Izzat Un Par (Saltanate) Din Isi Tarh Khatm Farmaega Jaise Ham Se Aaghaaz Farmaya Hai Aur Hamaare Zari’e Hee Logo’n Ko Fitne Se Bachaaya Jaa’ega Jis Tarh Inhe’n Shirk Se Najaat Ata’ Farmaa’i Ga’i Hai Aur Hamare Zari’e Hee Allah Unke Dilon Men Fitne Kee Adaawat Ke Ba’d Un Ke Dilo’n Men Mahabbat Ulfat Paida Farma’ega. Jis Tarh Allah Ne Shirk Kee Adaawat Ke Ba’d In Ke Dilon Men (Hamare Zari’e) Ulfat Paid Farmaa’i Aur Hamare Zari’e Hee Fitna (Wa Fasaad) Kee Adawat Ke Ba’d Log Aapas Men Bhaa’i Bhaa’i Ho Jaaenge, Jis Tarh Woh Shirk Kee Adawat Ke Ba’d Is Deen Men Bhaa’i Bhaa’i Ban Ga’e Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

23/364. عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَكَرَ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ: لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.  
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَقَالَ: الْهَيْشَمِيُّ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

“Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Mahdi Ka Zikr Karte Huwe Farmaya: Agar Un Kee Muddate Khilaafat Kam Hu’i To Saat Baras Hogi Warna Aath Ya Nau Saal Hogi Woh Zameen Ko Adl-o Insaaf Se Bhar Dege. Jis Tarh Is Se Pehle Zulm-o Jor Se Bhari Hogi.”

Is Hadith Ko Imam Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai. Aur Imam Haythami Ne Farmaya Ki Is Ke Rijaal Thiqaat Hain.

## 5. فَضْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَكُونُ خَلِيفَةَ اللَّهِ

### عَلَى الْإِطْلَاقِ

﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām Ke

‘Alāl-Iṭlāq Ḳhalīfatullāh Hone Kā Bayān﴾

24/365. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرِجُونَهُ، وَهُوَ كَارِهِ فَيَبْأِيغُونَهُ، بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخَسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيَبْأِيغُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَ ذَلِكَ بَعْثٌ كَلْبٍ وَالْحَبِيَّةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيُقْسِمُ الْمَالَ، وَيَعْمَلُ فِيالنَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

AL-HADITH RAQM 24: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/107,

RAQM-4286,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 06/316, RAQM-26731,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/478, RAQM-8328,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/460, RAQM-37223.



رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ وَ قَالَ

بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِينَ.

“Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka Farman Naql Karti Hain Ki Ek Khalifa Kee Wafaat Ke Waqt (Na’e Khalifa Ke Intekhaab Par Madinah Ke Musalmanon Men) Ikhtilaf Hoga Ek Shakhs (Ya’ni Mahdi Is Khayaal Se Ki Kahin Log Mujhe Na Khalifa Bana De) Madinah Se Makkah Chale Jaaenge. Makkah Ke Kuchh Log (Jo Unhe’n Ba-Haishiyate Mahdi Pehchan Lenge) Un Ke Paas Aa’enge Aur Unhe’n (Makaan) Se Baahar Nikaal Kar Hajare Aswad Wa Maqaame Ibrahim Ke Darmiyan Un Se Bai’ate (Khilaafat) Kar Lenge (Jab Un Kee Khilaafat Kee Khabar Aam Hogi) To Mulke Shaam Se Ek Lashkar Un Se Jang Ke Liye Rawana Hoga (Jo Aap Tak Pahonchne Se Pehle Hee) Makkah Wa Madinah Ke Darmiyan Bayda’ (Chatyal Maidan) Men Zameen Ke Andar Dhansa Diya Jaa’ega (Is Ibrat-Khez Halakat Ke Ba’d) Shaam Ke Abdaal Aur Iraq Ke Auliya’ Aa Kar Aap Se Bai’ate Khilaafat Kareng. Ba’d Az-Aa’n Ek Qurayshiyy-un-Nasl Shakhs (Ya’ni Sufyani) Jis Kee Nanihaal Qabila’e Kalb Men Se Hogi Khalifah Mahdi Aur Un Ke A’awaan-o Ansaar Se Jang Ke Liye Ek Lashkar Bhejega. Yeh Log Us Hamla Aawar Lashkar Par Ghaalib Honge Yahi (Jange) Kalb Hai Aur Khasaaarah Hai Us Shakhs Ke Liye Jo Kalb Se Haasil Shudah Ghanimat Men Sharik Na Ho (Is Fat’h Wa Kaamraani Ke Ba’d) Khalifa Mahdi Khoob Maal Taqsim Kareng Aur Logo’n Ko Un Ke Nabi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kee Sunnat Par Chalaa’enge Aur Islam Mukammal Taur Par Zameen Men Mustahkam Ho Jaa’ega (Ya’ni Dunya Men Poore Taur Par (Islam Ka Riway-o Ghalaba Hoga) Ba-Haalate Khilaafat, (Imam) Mahdi Dunya Men Saat Saal Aur Doosri Riwayat Ke E’tebaar Se Nau Saal Rah Kar

Wafaat Paa Jaa'enge Aur Musalman Un Kee Namaze Janazah Ada Karengē.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

25/366. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ. فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَفْهَمْهُ، قُلْتُ لِأَبِي: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Jaabir Bin Samurah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Unhone Farmaya: Main Ne RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Yeh Deen Qaa’im Rahega Yaha’n Tak Ki Tum Par Baaraah Khulafa’ Honge. Un Tamam Par Ummat Mujtama’ Hogi Phir Main Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se (Kuchh) Guftugu Suni Jise Main Samajh Na Saka. To Main Ne Apne Baap Se Arz Kiya: Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Kya Farma Rahe Hain? Mere Baap Ne Bataaya Ki Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Irshad Farmaya Hai “Woh Tamam (Baaraah Khulafa’) Quraysh Se Honge.”

Is Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

26/367. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَيَّ اثْنِي عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ مَا قَالَ؟ قَالَ: كَلَّمَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Hazrat Jabir Bin Samurah RadiyAllahu ‘Anhu Se Marwi Hai Unhone Farmaya: Main Ne RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Huwe Suna: Yeh Deen Baarah Khulafa’ Ke Aane Tak Ghaalib Rahega. Hazrat Jabir RadiyAllahu ‘Anhu Ne Farmaya: (Is Par) Logo’n Ne (Baland Aawaaz) Se “AllahuAkbar) Kaha Aur Shor Barpa Ho Gaya Phir Huzoor Nabiiye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Aahista Aawaaz Men Ek Kalima Farmaya. Main Ne Apne Baap Se Arz Kiya: Abba Jaan! Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Kya Farmaya Hai? (Unhone Bataaya) Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Hai Woh Sab (Barah Khulafa’) Quraysh Men Se Honge.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

27/368. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله وسلامه عليه: يُبَايِعُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ كَعِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَيَأْتِيهِ عَصْبُ الْعِرَاقِ وَ أَبْدَالُ الشَّامِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

---

AL-HADITH RAQM 26: AKHRAJAHU ABOO DAWUD FI AS-SUNAN, 04/106, RAQM-4280/4281.

AL-HADITH RAQM 27: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/478, RAQM-8328,

“Hazrat Umme Salamah RadiyAllahu ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Ke Ek Shakhs (Mahdi) Se Rukne Hajare Aswad Aur Maqaame Ibrahim Ke Darmiyan Ahle Badr Kee Ta’daad Ke Misl (Ya’ni 313) Afraad Bai’ate Khilafat Karege. Ba’d Az-Aa’n Is Imam Ke Paas Iraq Ke Auliya’ Aur Sham Ke Abdaal (Bai’at Ke Liye) Aa’enge.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

28/369. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْتِئِ الْمَالَ فِي النَّاسِ حَتَّى لَا يَعُدَّهُ عَدًّا ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَعُودَنَّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Hazrat Jabir RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Men Ek Khalifa Hoga Jo Logo’n Ko Maal Labaalab Bhar-Bhar Kar Taqsim Karega. Shumar Nahin Karega. (Ya’ni Sakhaawat Aur Dariyadili Kee Bina’ Par Shumaar Kiye Baghair Kasrat Se Logo’n Men Atiyyat Taqasim Karege) Aur Qasam Hai Us Zaaate Paak Kee Jis Kee Qudrat Men Meri Jaan Hai, Bit-Tahqiq (Galaba’e Islam Ka Daur Zaroor Lautega (Ya’ni Amre Isalm Muzmahil Ho Jaane Ke Ba’d Un Ke Zamaanah Men Phir Se Furoog Haasil Kar Lega).”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

---

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/460, RAQM-37223.

AL-HADITH RAQM 28: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/501, RAQM-8400.

29/370. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّيَّاتِ السُّودَ  
 قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَّاسَانَ فَاتُّتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ. رَوَاهُ  
 أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Thawban RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Khuraasaan Kee Taraf Aate Huwe Kaale Jhande Jab Dekho To Un Ke Paas Aana Kyun Ki Un Men Allah Ke Khalifa Mahdi Honge.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

30/371. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَتَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَايَاتُ سُودٍ مِنْ  
 قِبَلِ خُرَّاسَانَ، فَاتُّتُوهَا وَ لَوْ حَبَوًّا عَلَيِ الثَّلَجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ.  
 رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Thawban RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: An-Qarib Tum Par Khuraasaan Kee Taraf Se Siyaah Jhande Tuloo’ Honge Pas Tum Un Jhandon Kee Taraf Aa’o Khwaah Tumhe’n Barf Par Ludhak Kar Hee Kyun Na Aana Pade. Pas Be-Shak Woh Allah Ta’ala Ke Khalifa Hazrat Mahdi عليه السلام Honge.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

---

AL-HADITH RAQM 29: AKHRAJAHU AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 05/277, RAQM-2244I.

AL-HADITH RAQM 30: AKHRAJAHU AL-DAYLAMI FI MUSNAD-UL-FIRDAWS, 02/323, RAQM-347.

31/372. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ عَمَامَةٌ، فَيَأْتِي مُنَادٍ يُنَادِي: هَذَا الْمَهْدِيُّ خَلِيفَةُ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Unhone Farmaya Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Imam Mahdi عليه السلام Tashrif Laa’enge Aur Un Ke Sar Par Imama Hoga Pas Ek Munaadi Yeh Aawaaz Baland Karte Huwe Aa’ega Ki Yeh Mahdi Hain Jo Allah Ke Khalifa Hain. So Tum Un Kee Ittiba’ Wa Pairawi Karo.”

Is Hadith Ko Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

## 6. فَصْلٌ فِيَّانَ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ تُنْعَمُ فِيهِ وَلَا يَتِيهِ نِعْمَةٌ لَمْ تُنْعَمَهَا قَطُّ

﴿Sayyidunā Imām Mahdī ‘Alayhi Al-Salām  
Kī Ḳhilāfat Men Ummate Muḥammadī Ko  
Woh Ne‘mateñ Ḥāṣil Hoñgī Jo Use Kabhī  
Ḥāṣil Nah Hū’ī Hoñgī﴾

32/373. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا  
حَدَّثَ فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيِّ: يَخْرُجُ يَعِيشُ  
خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدُ الشَّاكِّ، قَالَ: قُلْنَا: وَ مَا ذَاكَ؟ قَالَ: سِنِينَ  
قَالَ فَيَجِيئُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِي، أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ: فَيَحْتِي لَهُ  
فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ.  
وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Farmate  
Hain Ki Ham Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala  
Aalihi Wa-Sallam Ke Ba’d Wuqoo’ Hawaadis Ke Khayaal Se Aap  
SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Poochha Ki Aap Ke

AL-HADITH RAQM 32: AKHRAJAHU AL-TIRMIDHI FI AS-SUNAN, 04/506,

RAQM-2232,

AHMAD BIN HANBAL FI AL-MUSNAD, 03/21, RAQM-III79.

Ba'd Kya Hoga. Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Men Imam Mahdi Honge Jo Paanch Saat Ya Nau Tak Hukoomat Kareng (Zayd Raawiye Hadith Ko Thik Muddat Men Shak Hai) Main Ne Poochha Ki Is Adad Se Kya Muraad Hai? Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: (Is Adad Se Muraad) Saal Hain. Un Ka Zamaana Aisi Khair-o Barakat Ka Hoga Ki Ek Shakhs Un Se Aa Kar Sawaal Karega Aur Kahega Ki Ae Mahdi! Mujhe Kuchh Dijiye, Mujhe Kuchh Dijiye. Aap Ne Farmaya Ki Imam Mahdi Haath Bhar-Bhar Kar Us Ko Itna Maal De Denge Jitna Woh Utha Ne Kee Istita'at Rakhta Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Farmate Hain Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

33/374. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَعِنَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصَرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ تُنْعَمُ أُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةٌ لَمْ يُنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتِي الْأَرْضَ أَكْلَهَا لَا تَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمئِذٍ كَدُّوسٍ يَقُومُ الرَّجُلُ يَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ، أَعْطِنِي فَيَقُولُ: خُذْ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ.

“Hazrat Aboo Sa'id Khudri RadiyAllahu 'Anhu RasoolAllah SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu 'Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri

AL-HADITH RAQM 33: AKHRAJAHU IBN MAJAH FI AS-SUNAN, 02/1366, RAQM-4083,

HAKIM FI AL-MUSTADRAK 'ALA SAHIHAYN, 04/601, RAQM-8675,

IBN ABI SHAYBAH FI AL-MUSANNAF, 07/512, RAQM-37638.



Ummat Men Mahdi Hoga Jo Kam Se Kam Saat Saal Warna Nau Saal Tak Rahega.” Un Ke Zamane Men Meri Ummat Itni Khush-Haal Hogi Ki Us Se Qabl Kabhi Aisi Khush-Haal Na Hu’i Hogi. Zameen Apni Har Qism Ke Paidaawaar Un Ke Liye Nikaal Kar Rakh Degi Aur Kuchh Bacha Kar Na Rakhegi Aur Maal Us Zamaane Men Khalyaan Men Anaaj Ke Dher Kee Tarh Pada Hoga Hatta Ki Ek Shakhs Khada Ho Kar Kahega Ae Mahdi! Mujhe Kuchh Dijiyee. Woh Farma’enge (Jitna Marzi Men Aa’e) Utha Le.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Aur Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

34/375. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ. يَسْقِيهِ اللَّهُ الْغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نِبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَّةُ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِي حِجَابًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَوَاقِفُهُ الذَّهَبِيُّ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Ke Aakhiri Daur Men Mahdi Paida Honge. Allah Ta’ala Un Par Khoob Baarish Barsaega Aur Zameen Apni Paidawaar Baahar Nikaal Degi Aur Woh Logo’n Ko Maal Yaksa’n Taur Par Denge. Un Ke Zamaana’e (Khilaafat) Men Maweshiyon Kee Kasrat

Aur Ummat Kee Azamat Hogi (Woh Khilaaft Ke Ba'd) Saat Saal Ya Aath Saal Zinda Rahenge.”

Is Hadith Ko Imam Haakim Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ki Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai Aur Imam Dhahabi Ne Un Kee Muwaafaqat Kee Hai.

35/376. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ الْمَهْدِيَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى تُقْتَلَ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ، فَإِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غَضِبَ عَلَيْهِمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَآتَى النَّاسَ الْمَهْدِيَّ فَرْقُوهُ كَمَا تُزْفُّ الْعُرُوسُ إِلَيَّ زَوْجَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا، وَهُوَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا، وَتُنْعَمُ أُمَّتِي فِي وَلَايَتِهِ نِعْمَةً لَمْ تُنْعَمَ بِهَا قَطُّ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

“Imam Mujahid (Mash’hoor Tabi’i) Ek Sahabi RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Unhone Kaha “Nafse Zakiyyah” Ke Qatl Ke Ba’d Hee Khalifa Mahdi Ka Zuhoor Hoga. Jis Waqt Nafse Zakiyyah Qatl Kar Diye Jaa’enge To Zameen-o Aasmaan Waale Un Qaatalin Par Ghazab Naak Honge. Ba’d Az-Aa’n Log (Imam) Mahdi Ke Paas Aaenge Aur Unhe’n Dulhan Kee Tarh Aaraasta-o Pairaasta Karengi Aur (Imam) Mahdi Zameen Ko Adl-o Insaaf Se Bhar Denge. (Un Ke Zamana’e Khilafat Men) Zameen Apni Paidawaar Ko Uga Degi Aur Aasman Khoob Barsega Aur Meri Ummat Par Un Kee Wilaayat-o Saltanat Men Us Qadr Ne’mate’n Naazil Hongi Ki Utne Ne’maton Se Use Pehle Kabhi Nahin Nawaza Gaya Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Abi Shaybah Ne Riwayat Kiya Hai.



37/378. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَسْقِيهِ اللَّهُ الْعَيْثَ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكْتُمُ الْمَأْشِيَةَ وَتُعْظَمُ الْأُمَّةُ يَعْيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِي حِجَابًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَأَبُو نَعِيمٍ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ.  
وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Hazrat Aboo Sa’id Khudri RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Meri Ummat Ke Aakhiri Daur Men Mahdi عليه السلام Ka Zuhoor Hoga Jise Allah Ta’ala Apni Ne’maton Se Khoob Nawaazega Aur Zameen Bhi Apne Khazaane Ugal Degi Aur Woh Maal Kee Bilkul Thik Taqsim Karega Aur (Us Ke Daur Men) Maweshiyon Kee Bahutaat Hogi Aur Meri Ummat Kee Khoob Ta’zim Hogi Woh (Apni Khilaafat Men) Saat Ya Aath Saal Zinda Rahega.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Aboo Nu’aym Ne Riwayat Kiya Hai Jaisa Ki Imam Suyooti Ne “Al-Hawi Li’l-Fatawi” Men Bayan Kiya Hai Aur Imam Haakim Kehte Hain Yeh Hadith Sahih-ul-Isnad Hai.

38/379. عَنْ جَعْفَرٍ رضي الله عنه قَالَ: يَقُومُ الْمَهْدِيُّ سَنَةً مَائَتَيْنِ.

---

AL-HADITH RAQM 37: AKHRAJAHU AL-HAKIM FI AL-MUSTADRAK ‘ALA SAHIHAYN, 04/601, RAQM-8673,

SUYOOTI FI AL-HAWI LI’L-FATAWI, 02/132.

AL-HADITH RAQM 38: AKHRAJAHU NU’AYM BIN HAMMAD FI AL-FITAN, 01/332, RAQM-953,

## رَوَاهُ ابْنُ حَمَّادٍ.

“Hazrat Imam Ja’far RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Imam Mahdi ﷺ Sane Do Sau (200 H.) Men Zaahir Honge.”

Is Hadith Ko Imam Nu’aym Ibn Hammad Ne Riwayat Kiya Hai.

39/380. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَمْلِكُ بَنُو الْعَبَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَنَّ النَّاسَ مِنَ الْخَيْرِ، ثُمَّ يَتَشَعَّثُ أَمْرُهُمْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا جُحْرَ عَقْرَبٍ فَادْخُلُوا فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي النَّاسِ شَرًّا طَوِيلًا، ثُمَّ يَزُولُ مُلْكُهُمْ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ، وَيَقُومُ الْمَهْدِيُّ فِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالسُّيُوطِيُّ وَاللَّفَّظُ لَهُ.

“Hazrat Muhammad Bin Hanafiyah RadiyAllahu ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Banu Abbas Logo’n Par Hukoomat Karengi Yaha’n Tak Ki Unhe’n Har Tarh Kee Khabar Milegi, Phir Un Kee Hukoomat Ka Shiraajah Sane Pachchaanwe Hijri Men Bikhari Jaega, Pas Us Waqt Agar Tum Kisi Bichchhu Ka Bil Bhi Pao To Us Men Daakhil Ho Jaana Kyun Ki Us Waqt Logo’n Men Ek Kabhi Na Khatm Hone Waala Sharr Bapa Hoga, Phir Sane Sattaanwe Ya Ninnaawe Men Un Kee Hukoomat Khatm Ho Jaaegi Aur Phir Sane Do Sau (200 Hijri) Men Imam Mahdi ﷺ Ka Zuhoor Hoga.”

SUYOOTI FI AL-HAWI LI-L-FATAWI, 02/144.

AL-HADITH RAQM 39: AKHRAJAHU NU’AYM BIN HAMMAD FI AL-FITAN,  
01/217, RAQM-599,

SUYOOTI FI AL-HAWI LI-L-FATAWI, 02/163, 164.

Is Hadith Ko Imam Aboo Nu'aym Aur Imam Suyooti Ne Riwayat Kiya Hai Yeh Alfaz Imam Suyooti Ke Hain.

40/381. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَمْلِكُ الْمَهْدِيُّ سَبْعَ سِنِينَ وَشَهْرَيْنِ وَأَيَّامٍ. رَوَاهُ نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ وَالسُّيُوطِيُّ.

“Muhammad Bin Humayr Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Ki Unhone Bayan Kiya: Imam Mahdi عليه السلام Saat Saal Do Maah Aur Kuchh Din Hukoomat Karengē.”

Is Hadith Ko Imam Nu'aym Bin Hammad Aur Suyooti Ne Riwayat Kiya Hai. -

41/382. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: يَظْهَرُ الْمَهْدِيُّ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وَ مَعَهُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَمِيصُهُ وَسَيْفُهُ وَ عَلَامَاتُ وَ نُورٌ وَبَيَانٌ، فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَقُولُ: أَذْكَرْكُمْ اللَّهُ أَيَّهَا النَّاسُ وَمَقَامُكُمْ بَيْنَ يَدَي رِبِّكُمْ فَقَدْ اتَّخَذَ الْحَجَرَ وَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ، وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَمْرَكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُحَافِظُوا عَلَي طَاعَتِهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَنْ تُحْيُوا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَتُمِيتُوا مَا أَمَاتَ، وَتَكُونُوا عَلَي الْهُدَى، وَوُزَرَآءَ عَلَي التَّقْوَى، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَا فَنَاوَهَا وَزَوَّالَهَا، وَ آذَنْتُ بِانْصِرَامِ،

AL-HADITH RAQM 40: AKHRAJAHU NU'AYM BIN HAMMAD FI AL-FITAN,  
01/378, RAQM-II30,

SUYOOTI FI AL-HAWI LI'L-FATAWI, 02/155.

AL-HADITH RAQM 41: AKHRAJAHU NU'AYM BIN HAMMAD FI AL-FITAN,  
01/345, RAQM-999,

SUYOOTI FI AL-HAWI LI'L-FATAWI, 02/144, 145.

فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَالْعَمَلِ بِكِتَابِهِ، وَإِمَاتَةِ الْبَاطِلِ،  
وَإِحْيَاءِ سُنَّتِهِ، فَيُظْهِرُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةِ عَشَرَ رَجُلًا عَدَدَ أَهْلِ بَدْرِ عَلَيَّ  
غَيْرِ مِيعَادٍ قَزَعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ، رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أُسَدٌ بِالنَّهَارِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ  
لِلْمَهْدِيِّ أَرْضَ الْحِجَازِ، وَيَسْتَخْرِجُ مَنْ كَانَ فِي السِّنِّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ،  
وَتَنْزِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ الْكُوفَةَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ بِالْبَيْعَةِ إِلَيَّ الْمَهْدِيَّ، وَيَبْعَثُ  
الْمَهْدِيَّ جُنُودَهُ فِي الْأَفَاقِ، وَيُمِيتُ الْجُورَ وَأَهْلَهُ، وَتَسْتَقِيمُ لَهُ الْبُلْدَانُ،  
وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ يَدِيهِ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ حَمَّادٍ وَالسِّيُوطِيُّ.

“Hazrat Aboo Ja’far Bayan Karte Hain Ki Imam Mahdi ﷺ

Ka Isha Ke Waqt Makkah Men Zuhoor Hoga Aur Un Ke Saath Huzoor  
Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ka (Ata  
Kardah) Jhanda Aur Aap SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam  
Ka Kurta Mubarak Aur Talwar Hogi (Is Ke Ilaawah Digar) Alaamaat,  
Noor Aur Waazeh Bayan Hoga. Pas Aap Jab Isha Ke Namaz Ada Kar  
Lenge Ba Aawaze Baland Needa Denge: Ae Logo! Main Tumhe’n Allah  
Aur Us Ke Huzoor Tumhare Khade Hone Kee Yaad Dilaata Hoo’n. Jis  
Ne Apni Shaan Ke Laaik Apne Maqam Ko Laazim Pakda Aur (Logo’n  
Ke Islaah Ke Liye) Anbiya’ Mab’oos Kiye Aur Kitabe’n Naazil Kee’n  
Aur Main Tumhe’n Hukm Deta Hoo’n Ki Us Allah Ka Kisi Ko Sharik  
Na Thehraao Aur Us Kee Aur Us Ke Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala  
Aalihi Wa-Sallam Kee Ita’at Ko Laazim Pakdo Aur Us Tariqe Ko Zinda  
Karo Jise Qur’an Ne Zinda Kiya Aur Us Tariqe Ko Khatm Karo Jise  
Qur’an Ne Khatm Kiya Hai Aur Hidaayat Ke Raaste Men Ek Doosre  
Ke Madad-Gaar Ho Jaao Aur Taqwa Ke Kaamon Men Ek Doosre Ke  
Mu’aadwin Ban Jaao. Pas Be-Shak Dunya Tabaahi Aur Barbaadi Ke  
Dahaane Par Hai Aur Main Tumhe’n Har Taraf Se Kat Kar Ek Allah



Aur Us Ke Rasool SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Aur Un Kee Kitab Par Amal Karne, Baatil Ko Khatm Karne, Sunnat Ko Zinda Karne Kee Taraf Bulaata Hoo’n. Pas Aap عليه السلام Ka Zuhoor As’habe Badr Kee Ta’dad Ke Baraabar Teen Sau Terah Logo’n Men Hoga Jo Baghair Kisi Mu’ayyanah Waqt Ke Aa’enge Aue Kharif Ke Patto’n Kee Tarh Dunya Men Bikhre Huwe Honge Jo Raat Ke Waqt Raahon Kee Tarh Honge Lekin Din Ke Waqt Shero’n Kee Tarh Honge. Pas Allah Ta’ala Imam Mahdi عليه السلام Ke Liye Arze Hijaaz Ko Fat’h Karega Aur Woh Banu Haashim Ke Nau Jawaano’n Ko Apne Saath Jihaad Ke Liye Nikaalenge. Aur Woh Siyaah Jhanadon Ke Saath Sar-Zameene Koofa Men Utarenge. Pas Allah Ta’ala Imam Mahdi Ko Izne Bai’at Ata’ Farma’ega Aur Woh Apne Lashkaro’n Ko Poori Dunya Men Phaila Denge Aur Zulm Aur Zaalimo’n Ko Khatm Karenge. Pas Tamam Mamaalik Un Ke Zere Saayah Ho Jaa’enge Aur Allah Ta’ala Un Ke Haath Qustantiniyyah Ko Fat’h Karega.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Hammad Aur Suyooti Ne Bayan Kiya Hai.

42/383. عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَهْدِيُّ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِي، لَوْنُهُ لَوْنُ عَرَبِيٍّ، وَجِسْمُهُ جِسْمُ إِسْرَائِيلِيِّ، عَلَيْهِ خِدَّةٌ الْأَيْمَنِ خَالٌ كَأَنَّهُ كَوَكَبٌ دُرِّيٌّ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا، يَرْضَى فِيخْلَافَتِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَهْلُ السَّمَاءِ وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ يَمْلِكُ عَشْرِينَ سَنَةً. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

“Hazrat Hudhayfah RadiyAllahu ‘Anhu Se Riwayat Hai Unhone Farmaya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu ‘Alayhi Wa-Ala Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mahdi Meri Aulaad Men Se Honge. Un Ka Rang Arabi Aur Un Kee Jismaani Saakht Isra’ili Hongi. Un Ke Daa’e’n Rukhsaar Par Teel Hoga Goya Woh Noor Afshaa’n Sitaarah Honge. Woh Zameen Ko Adl Se Bhar Dege Jis Tarh Woh Pehle Zulm Se Bhari Hu’i Thi Un Kee Khilaafat Par Ahle Zameen Aur Ahle Aasmaan Sab Raazi Honge Aur Faza Men Parande Bhi Raazi (Khush) Honge.”

Is Hadith Ko Imam Daylami Ne Riwayat Kiya Hai.

## Maṣādir Al-Taḫrīj

1. القرآن الحكيم.
2. آمدى، سيف الدين ابى الحسن على بن ابى على بن محمد (551-631 هـ / 1156-1233 ع). الاحكام فى اصول الاحكام- بيروت، لبنان: دارالكتب العلمية، 1400 هـ / 1980 ع-
3. ابن ابى شيبه، ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان كوفى (159-235 هـ / 776-849 ع). المصنف- رياض، سعودى عرب: مكتبة الرشد، 1409 هـ-
4. ابن ابى عاصم، ابو بكر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شيبانى (206-287 هـ / 822-900 ع) الزهد- قاهره، مصر: دار الريان للتراث، 1408 هـ-
5. ابن ابى عاصم، ابو بكر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شيبانى (206-287 هـ / 822-900 ع) السنة- بيروت، لبنان: المكتب الاسلامى، 1400 هـ-
6. ابن الاثير، ابو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيبانى جزرى (555-630 هـ / 1160-1233 ع). اسد الغابة فى معرفة الصحابة- بيروت، لبنان: دارالكتب العلمية-

7. ابن الاثير، ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيباني جزري (555-630 هـ / 1160-1233 ع). **الكامل في التاريخ** - بيروت، لبنان: دار صادر، 1979 ع-
8. ابن تيميه، احمد بن عبد الحلليم بن عبد السلام حراني (661-728 هـ / 1263-1328 ع). **الصارم المسلول** - بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1417 هـ-
9. ابن جارود، ابو محمد عبد الله بن علي بن جارود نيشاپوري (307 هـ). **المنتقى من السنن المسندة** - بيروت، لبنان: مؤسسة الكتاب الثقافية، 1418 هـ / 1988 ع
10. ابن جعد، ابو الحسن علي بن جعد بن عبيد هاشمي (133-230 هـ / 750-845 ع). **المسند** - بيروت، لبنان: مؤسسة نادر، 1410 هـ / 1990 ع-
11. ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (510-579 هـ / 1116-1201 ع). **التحقيق في احاديث الخلاف**، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 1415 هـ-
12. ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (510-579 هـ / 1116-1201 ع). **تذكرة الخواص** - بيروت، لبنان: مؤسسة اهل البيت، 1401 هـ - 1981 م-

13. ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبید اللہ (510-579ھ / 1116-1201ء)۔ صفوة الصفوة۔ بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیہ، 1409ھ / 1989ء
14. ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبید اللہ (510-579ھ / 1116-1201ء)۔ المنتظم فی تاریخ الملوك والامم۔ بیروت، لبنان: دار صادر، 1358ھ۔
15. ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (270-354ھ / 884-965ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: مؤسسه الرساله، 1414ھ / 1993ء۔
16. ابن حبان، عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن محمد بن حبان ابو محمد الانصارى (274-369ھ)۔ طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها۔ بیروت، لبنان: مؤسسه الرساله، 1412ھ۔ 1992ء۔
17. ابن حجر عسقلانى، احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد کنانى (773-852ھ / 1372-1449ء)۔ الاصابة فی تمييز الصحابة۔ بیروت، لبنان: دار الجیل، 1412ھ / 1992ء۔
18. ابن حجر عسقلانى، احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد کنانى (773-852ھ / 1372-1449ء)۔ تهذيب التهذيب۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1404ھ / 1984ء۔

19. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ / 1372-1449ء)۔ فتح الباری۔ لاہور، پاکستان: دار نشر الکتب الاسلامیہ، 1401ھ / 1981ء۔
20. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ / 1372-1449ء)۔ لسان المیزان۔ بیروت، لبنان، مؤسسۃ الاعلیٰ المطبوعات 1406ھ / 1986ء۔
21. عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ / 1372-1449ء)۔ المطالب العالیۃ۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، 1407ھ / 1978ء۔
22. ابن حزم، علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی (384-456ھ / 994-1064ء)۔ الاحکام فی اصول الاحکام۔ فیصل آباد، پاکستان: ضیاء السنہ ادارۃ الترجمہ والتعریف، 1404ھ۔
23. ابن حزم، علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی، (384-456ھ / 994-1064ء)۔ المحلی۔ بیروت، لبنان: دار الآفاق الجدیدۃ۔
24. ابن خزیمہ، ابو بکر محمد بن اسحاق (223-311ھ / 838-924ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: المکتبۃ الاسلامی، 1390ھ / 1970ء۔

25. ابن راهويه، ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن عبد الله (161-237 هـ / 778-851ء). المسند- مدينة منوره، سعودى عرب: مكتبة الايمان، 1412 هـ / 1991ء-
26. ابن رجب حنبلى، ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد (736-795 هـ). جامع العلوم و الحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- بيروت، لبنان: دار المعرفه، 1408 هـ-
27. ابن زيد، ابو اسماعيل حماد بن اسحاق بن اسماعيل (267 هـ). تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبل القبي و جهها فيها- 1404 هـ-
28. ابن سعد، ابو عبد الله محمد (168-230 هـ / 784-845ء). الطبقات الكبرى- بيروت، لبنان: دار بيروت للطباعة والنشر، 1398 هـ / 1978ء-
29. ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (368-463 هـ / 979-1071ء). الاستيعاب فى معرفة الاصحاب- بيروت، لبنان: دار الجيل، 1412 هـ-
30. ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (368-463 هـ / 979-1071ء). التمهيد- مغرب (مراکش): وزات عموم الاوقاف و الشؤون الاسلاميه، 1387 هـ-

31. ابن عساكر، ابو قاسم على بن حسن بن هبة الله بن عبد الله بن حسين دمشقي (499-571 هـ / 1105-1176 ع). تاريخ دمشق الكبير (تاريخ ابن عساكر). بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، 1421 هـ / 2001 ع.
32. ابن عساكر، ابو قاسم على بن حسن بن هبة الله بن عبد الله بن حسين دمشقي (499-571 هـ / 1105-1176 ع). تهذيب تاريخ دمشق الكبير. بيروت، لبنان، دار الميسرة، 1399 هـ / 1979 ع.
33. ابن قانع، عبد الباقي (265-351 هـ). معجم الصحابة. مدينة منوره، مكتبة الغرباء الاثرية، 1418 هـ.
34. ابن قدامه، ابو محمد عبد الله بن احمد المقدسي (م 620 هـ). المغنى فى فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني. بيروت، لبنان: دار الفكر، 1405 هـ.
35. ابن قيسراني، ابو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن احمد مقدسي (448-507 هـ / 1056-1113 ع). تذكرة الحفاظ. رياض، سعودى عرب: دار الصمعي، 1415 هـ.
36. ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل بن عمر (701-774 هـ / 1301-1373 ع). البداية والنهاية. بيروت، لبنان: دار الفكر، 1419 هـ / 1998 ع.



37. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر (701-774 هـ / 1301-1373 ع). تحفة الطالب بمعرفة احاديث مختصر ابن الحاجب - مكة المكرمة، سعودي عرب: دار حراء، 1406 هـ -
38. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر (701-774 هـ / 1301-1373 ع). تفسير القرآن العظيم - بيروت، لبنان: دار المعرفه، 1400 هـ / 1980 ع -
39. ابن ماجه، ابو عبد الله محمد بن يزيد قزويني (209-273 هـ / 824-887 ع). السنن - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1419 هـ / 1998 ع -
40. ابن مبارك، ابو عبد الرحمن عبد الله بن واضح مروزي (118-181 هـ / 736-798 ع). كتاب الزهد - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية -
41. ابن الملقن، عمر بن علي بن الملقن الانصاري (723-804 هـ). خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي - الرياض، سعودي عرب: مكتبة الرشد، 1410 هـ -
42. ابن منده، ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن يحيى (310-395 هـ / 922-1005 ع). الايمان - بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1406 هـ -
43. ابن حجر هيثمي - ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر (909-973 هـ / 1503-1566 ع). الصواعق المحرقة - قاهره، مصر: مكتبة القاهره، 1385 هـ / 1965 ع -

44. ابن هشام، ابو محمد عبد الملك حميرى (م 213 هـ / 828ء)۔ السيرة النبوية۔ بيروت، لبنان: دار الجيل، 1411 هـ۔
45. ابوداؤد، سليمان بن اشعث سجستاني (202-275 هـ / 817-889ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان: دار الفكر، 1414 هـ / 1994ء۔
46. ابوسعود، محمد بن محمد عمادى (898-982 هـ / 1493-1575ء)۔ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم (تفسير ابى سعود)۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربى
47. ابوعلامبارك پورى، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (1283-1353 هـ)۔ تحفة الاحوذى۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية۔
48. ابو عوانه، يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن زيد نيساپورى (230-316 هـ / 845-928ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان: دار المعرفه، 1998ء۔
49. ابو نعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهاني (336-430 هـ / 948-1038ء)۔ حلية الاولياء و طبقات الاصفياء۔ بيروت، لبنان: دار الكتاب العربى، 1400 هـ / 1980ء۔
50. ابو نعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهاني (336-430 هـ / 948-1038ء)۔ المسند المستخرج على صحيح مسلم۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1996ء۔

51. ابويعلى، احمد بن على بن شتى بن يحيى بن عيسى بن هلال موصلى تميمى (210-307هـ / 825-919ء). المسند- دمشق، شام: دار المامون للتراث، 1404هـ / 1984ء
52. ابويعلى، احمد بن على بن شتى بن يحيى بن عيسى بن هلال موصلى تميمى (210-307هـ / 825-919ء). المعجم- فيصل آباد، پاكستان: ادارة العلوم الاثرية، 1407هـ -
53. احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (164-241هـ / 780-855ء). فضائل الصحابة- بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة-
54. احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (164-241هـ / 780-855ء). المسند- بيروت، لبنان: المكتبة الاسلامى، 1398هـ / 1978ء-
55. ازدى، ربيع بن حبيب بن عمر بصرى، الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب- بيروت، لبنان، دار الحكمة، 1415هـ-
56. اسماعيلى، ابو بكر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل اسماعيل، معجم الشيوخ ابى بكر اسماعيلى- مدينة منوره، سعودى عرب، مكتبة العلم والحكم، 1410هـ-
- اندلسى، عمر بن على بن احمد الوادياشى (723-804هـ). تحفة المحتاج الى ادلة المنهاج- مكة المكرمة، سعودى عرب: دار حراء، 1406هـ-

57. بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (194-256ھ / 810-870ء)۔ **الادب المفرد**۔ بیروت، لبنان: دار البشائر الاسلامیہ، 1409ھ / 1989ء۔
58. بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (194-256ھ / 810-870ء)۔ **التاریخ الكبير**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔
59. بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (194-256ھ / 810-870ء)۔ **الجامع الصحيح**۔ بیروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم، 1401ھ / 1981ء۔
60. بزار، ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (210-292ھ / 825-905ء)۔ **المسند**۔ بیروت، لبنان: 1409ھ۔
61. بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد (436-516ھ / 1044-1122ء)۔ **شرح السنة**۔ بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، 1403ھ / 1983ء۔
62. بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ (384-458ھ / 994-1066ء)۔ **الاعتقاد**۔ بیروت، لبنان، دار الآفاق الجدید، 1401ھ۔
63. بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ (384-458ھ / 994-1066ء)۔ **السنن الصغری**۔ مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ الدار، 1410ھ / 1989ء۔

64. **بيهقي**، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-1066ع)۔ **السنن الكبرى**۔ مکه مکرمه، سعودی عرب: مکتبه دار الباز، 1414ھ / 1994ء۔
65. **بيهقي**، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-1066ع)۔ **السنن الكبرى**۔ مدینه منوره، سعودی عرب: مکتبه الدار، 1410ھ / 1989ء۔
66. **بيهقي**، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (384-458هـ / 994-1066ع)۔ **شعب الايمان**۔ بيروت، لبنان: دار الکتب العلميه، 1410ھ / 1990ء۔
67. **ترمذی**، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی (210-279ھ / 825-892ع)۔ **السنن**۔ بيروت، لبنان: دار الغرب الاسلامی، 1998ء۔
68. **حارث**، ابن ابی اسامۃ (186-282ھ)۔ **بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث**۔ مدینه منوره، سعودی عرب: مرکز خدمۃ السنۃ والسيرۃ النبویۃ، 1413ھ / 1992ء۔
69. **حاکم**، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (321-405ھ / 933-1014ع)۔ **المستدرک علی الصحیحین**۔ بيروت۔ لبنان: دار الکتب العلميه، 1411ھ / 1990ء۔

70. حاكم، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (321-405هـ / 933-1014ع).  
المستدرک علی الصحیحین - مکه، سعودی عرب: دار الباز للنشر والتوزیع.
71. حسام الدین ہندی، علاء الدین علی متقی (م 975ھ). کنز العمال - بیروت،  
لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، 1399 / 1979.
72. حسینی، ابراہیم بن محمد (1054-1120ھ). البیان و التعریف - بیروت،  
لبنان: دار الکتب العربی، 1401ھ.
73. حکیم ترمذی، ابو عبد الله محمد بن علی بن حسن بن بشیر - نوادر الاصول فی  
احادیث الرسول - بیروت، لبنان: دار الجلیل، 1992ع.
74. حلبي، علی بن برهان الدین (1404ھ). السیرة الحلبيّة، بیروت، لبنان،  
دار المعرفه، 1400ھ.
75. حلبي، ابراہیم بن محمد بن سبط ابن العجمي الطرابلسي (753-841ھ). الكشف  
الحیث رمي یوضع الحدیث - بیروت، لبنان: مکتبة النهضة العربیّة، 1407ھ -  
1987.
76. حمیدی، ابو بکر عبد الله بن زبیر (م 219ھ / 834ع). المسند - بیروت، لبنان:  
دار الکتب العلمیہ + قاہرہ، مصر: مکتبة المنتبى.
77. خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بن ثابت (392-  
463ھ / 1002-1071ع). تاریخ بغداد - بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ.

78. **خطيب بغدادى**، ابو بكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدي بن ثابت (392-463 هـ / 1002-1071ء). **الكفاية في علم الرواية**۔ مدينة منوره، سعودى عرب: المكتبة العلمية۔
79. **خطيب بغدادى**، ابو بكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدي بن ثابت (392-463 هـ / 1002-1071ء). **موضح اوهام الجمع والتفريق**۔ بيروت، لبنان: دار المعرفة 1407ء۔
80. **خلال**، احمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، ابو بكر (334-311 هـ). **السنة**۔ رياض، سعودى عرب: 1410 هـ
81. **دارمى**، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (181-255 هـ / 797-869ء). **السنن**۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العربى، 1407 هـ۔
82. **دارقطنى**، ابو الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان (306-385 هـ / 918-995ء). **السنن**۔ بيروت، لبنان: دار المعرفة، 1386 هـ / 1966ء
83. **ديلمى**، ابو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسرو همدانى (445-509 هـ / 1053-1115ء). **الفردوس بمانور الخطاب**۔ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1986ء۔

84. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد الذہبی (673-748ھ)۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیہ، 1995ء۔
85. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد الذہبی (673-748ھ)۔ سیر اعلام النبلاء۔ بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1413ھ۔
86. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد الذہبی (673-748ھ)۔ تذکرۃ الحفاظ
87. رویانی، ابو بکر فی بن ہارون (م 307ھ)۔ المسند۔ قاہرہ، مصر: مؤسسہ قرطبہ، 1416ھ۔
88. زمخشری، ابو القاسم محمد بن عمر (538ھ)۔ مختصر کتاب الموافقة بین اهل البيت والصحابة۔ بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیہ۔
89. زیلعی، ابو محمد عبد اللہ بن یوسف حنفی (م 762ھ)۔ نصب الرایۃ لاحادیث الہدایۃ۔ مصر، دارالحدیث، 1357ھ۔
90. رازی، محمد بن عمر بن حسن بن حسین بن علی تیمی (543-606ھ / 1149-1210ء)۔ التفسیر الکبیر۔ تہران، ایران: دارالکتب العلمیہ۔
91. سخاوی، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (831-904ھ)۔ استجلاب ارتقاء الفرف بحب اقربا الرسول وذوی الشرف۔ مکتبۃ الملک، ریاض، سعودی عرب: فہد الوطنیہ، 1421ھ۔



92. سعيد بن منصور، ابو عثمان الخراساني، (م 227هـ)، السنن- رياض، سعودي عرب: دار العيصي، 1414هـ-
93. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)- الاتقان في علوم القرآن- مطبه امير، منشورات الرضى بيدار-
94. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)- تاريخ الخلفاء- بغداد، عراق: مكتبة الشرق الجديد-
95. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)- الجامع الصغير في احاديث البشير النذير- بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه-
96. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)- الحاوى للفتاوى- مصر: مطبعه السعاده، 1378هـ / 1959ء-
97. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (849-911هـ / 1445-1505ء)- الدر المنثور في التفسير بالمأثور- بيروت، لبنان: دار المعرفه-

98. سیوطی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (849-911ھ / 1445-1505ء)۔ **لباب النقول فی اسباب النزول**۔ قاهرہ، مصر: مطبعہ مصطفیٰ البانی الجلی، 1354ھ / 1935ء۔
99. سیوطی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (849-911ھ / 1445-1505ء)۔ **شرح سنن ابن ماجہ**۔ کراچی، پاکستان: قدیمی کتب خانہ۔
100. شاشی، ابو سعید نیشتم بن کلیب بن شریح (م 335ھ / 946ء)۔ **المسند**۔ مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ العلوم والحکم، 1410ھ۔
101. شافعی، ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع قرشی (150-204ھ / 767-819ء)۔ **المسند**۔ بیروت لبنان: دار الکتب العلمیہ
102. شافعی، ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع قرشی (150-204ھ / 767-819ء)۔ **السنن الماثورۃ**۔ بیروت لبنان: دار المعرفۃ، 1406ھ۔
103. شوکانی، محمد بن علی بن محمد (1173-1250ھ / 1760-1834ء)۔ **در السحابۃ فی مناقب القراۃ والصحابۃ**۔ لاہور، پاکستان: مکتبہ، سید احمد شہید، 1404ھ-1984م۔

104. شوکانی، محمد بن علی بن محمد (1173-1250ھ / 1760-1834ء)۔ نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1402ھ / 1982ء۔
105. شیبانی، محمد بن حسن (132-189ھ)۔ الموطأ۔ کراچی، پاکستان: میر محمد کتب خانہ۔
106. شیبانی، ابو بکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد (206-287ھ / 822-900ء)۔ الآحاد والمثالی۔ ریاض، سعودی عرب: دار الراية، 1411ھ / 1991ء۔
107. صیداوی، محمد بن احمد بن جمیع، ابو الحسن (305-402)۔ معجم الشیوخ۔ بیروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1405ھ۔
108. طاہر القادری، ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ عرفان القرآن۔ لاہور، پاکستان: منہاج القرآن پبلی کیشنز، 2005۔
109. طبرانی، سلیمان بن احمد (260-360ھ / 873-971ء)۔ مسند الشامیین۔ بیروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1405ھ / 1984ء۔
110. طبرانی، سلیمان بن احمد (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الاوسط۔ ریاض، سعودی عرب: مکتبة المعارف، 1405ھ / 1985ء۔
111. طبرانی، سلیمان بن احمد (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الصغیر۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1403ھ / 1983ء۔

112. **طبرانی، سليمان بن احمد** (260-360هـ / 873-971ء). **المعجم الكبير** - موصل، عراق: مطبعة الزهراء الحديثة.
113. **طبرانی، سليمان بن احمد** (260-360هـ / 873-971ء). **المعجم الكبير** - قاهره، مصر: مكتبة ابن تيمية.
114. **طبري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد** (224-310هـ / 839-923ء). **تاريخ الامم والملوك** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1407هـ.
115. **طبري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد** (224-310هـ / 839-923ء). **جامع البيان في تفسير القرآن** - بيروت، لبنان: دار المعرفه، 1400هـ / 1980ء.
116. **طبري، ابو عباس احمد بن محمد**، (694هـ). **ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى** - دار الكتب العصرية.
117. **طبري، ابو عباس احمد بن محمد**، (694هـ). **الرياض النضرة** - بيروت، لبنان: دار الغرب الاسلامي، 1996ء.
118. **طحاوى، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملك بن سلمه** (229-321هـ / 853-933ء). **شرح معانى الآثار** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1399هـ.
119. **طحاوى، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملك بن سلمه** (229-321هـ / 853-933ء). **مشكل الآثار** - بيروت، لبنان: دار صادر.

120. **طيالسي**، **الوداؤد سليمان بن داؤد جارود** (133-204 هـ / 751-819ء)۔  
المسند بيروت، لبنان: دار المعرفه۔
121. **عبدالله بن احمد بن حنبل** (213-290 هـ)۔ **السنة**۔ دمام: دار ابن قيم، 1406 هـ
122. **عبد بن حميد**، **ابو محمد بن نصر الكسى** (م 249 هـ / 863ء)۔ **المسند**۔ قاهره، مصر:  
مكتبة السنه، 1408 هـ / 1988ء۔
123. **عبدالرزاق**، **ابو بكر بن همام بن نافع صنعاني** (126-211 هـ / 744-826ء)۔  
المصنف۔ بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، 1403 هـ۔
124. **عجلوني**، **ابو الفداء اسماعيل بن محمد بن عبد البهادي بن عبد الغني جراجي** (1087-  
1162 هـ / 1676-1749ء)۔ **كشف الخفا ومزيل الالباس**۔ بيروت، لبنان:  
مؤسسة الرساله، 1405 هـ۔
125. **عظيم آبادي**، **ابو الطيب محمد شمس الحق**۔ **عون المعبود شرح سنن ابي داود**۔  
بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1415 هـ۔
126. **قرطبي**، **ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن يحيى بن مفرج أموي** (284-380 هـ /  
897-990ء)۔ **الجامع لاحكام القرآن**۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث  
العربي۔
127. **قزويني**، **عبدالكريم بن محمد الرافعي**۔ **التدوين في اخبار قزوين**۔ بيروت، لبنان: دار  
الكتب العلمية، 1987ء۔

128. **قضاعى**، ابو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر (م454هـ)۔ **مسند الشهاب**۔  
بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1407هـ۔
129. **كنانى**، احمد بن ابى بكر بن اسماعيل (762-840هـ)۔ **مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة**۔ بيروت، لبنان، دار العربية، 1403هـ۔
130. **الالكائى**، ابو قاسم هبة الله بن حسن بن منصور (418هـ)۔ **شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة**۔ رياض، سعودى عرب، دار طيبة، 1402هـ۔
131. **مالك**، ابن انس بن مالك رضى الله عنه بن ابى عامر بن عمرو بن حارث الصبحى (93-179هـ / 712-795ء)۔ **الموطا**۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربى، 1406هـ / 1985ء۔
132. **مروذى**، ابو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج (202-294هـ)۔ **تعظيم قدر الصلوة**۔  
مدينة منوره، سعودى عرب: مكتبة الدار، 1406هـ۔
133. **مروذى**، محمد بن نصر بن الحجاج، ابو عبد الله (202-294هـ)۔ **السنة**۔ بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 1408هـ۔
134. **معمربن راشد الازدى** (151هـ)۔ **الجامع**۔ بيروت، لبنان: المكتب الاسلامى، 1403هـ۔

135. **نعيم بن حماد**، (م 288هـ)۔ **الفتن**۔ قاهره، مصر: بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 1408هـ۔
136. **مزي**، ابو الحجاج يوسف بن زكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي (654-742هـ / 1256-1341ء)۔ **تهذيب الكمال**۔ بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1400هـ / 1980ء۔
137. **مسلم**، ابن الحجاج قشيري (206-261هـ / 821-875ء)۔ **الصحیح**۔ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي۔
138. **مقدسى**، محمد بن عبد الواحد حنبلي (م 643هـ)۔ **الاحاديث المختارة**۔ مکه مکرمه، سعودي عرب: مكتبة النهضة الحديثية، 1410هـ / 1990ء۔
139. **مقدسى**، محمد بن عبد الواحد حنبلي (م 643هـ)۔ **الاحاديث المختاره**۔ فضائل بيت المقدس۔ شام: دار الفكر، 1405هـ۔
140. **مقرئ**، ابو بكر محمد بن ابراهيم (285-381هـ)۔ **الرخصة في تقبيل اليد**۔ رياض: سعودي عرب، 1408هـ۔
141. **مقرئ**، ابو عمرو عثمان بن سعيد داني (371-444هـ)۔ **السنن الواردة في الفتن**۔ رياض: سعودي عرب، 1416هـ۔

142. **مناوى، عبد الرؤف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين** (952-1031 هـ / 1545-1621ء). **فيض القدير شرح الجامع الصغير** - مصر: مكتبة تجاربه كبرى، 1356 هـ.
143. **منذرى، ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد** (581-656 هـ / 1185-1258ء). **الترغيب والترهيب** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417 هـ.
144. **نسائى، خصائص امير المومنين على بن ابى طالب رضى الله عنه** - بيروت، لبنان: دار الكتاب العربى، 1407 هـ - 1987 م.
145. **نسائى، احمد بن شعيب** (215-303 هـ / 830-915ء). **السنن** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416 هـ / 1995ء.
146. **نسائى، احمد بن شعيب** (215-303 هـ / 830-915ء). **السنن الكبرى** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1411 هـ / 1991ء.
147. **نسائى، احمد بن شعيب** (215-303 هـ / 830-915ء). **فضائل الصحابة** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1405 هـ.
148. **نسائى، احمد بن شعيب** (215-303 هـ / 830-915ء). **عمل اليوم والليلة** - بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1407 هـ / 1987ء.



149. **نووی**، ابو زکریا، یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام (631-677ھ / 1233-1278ء)۔ **شرح صحیح مسلم**۔ کراچی، پاکستان: قدیمی کتب خانہ، 1375ھ / 1956ء۔
150. **نووی**، ابو زکریا، یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام (631-677ھ / 1233-1278ء)۔ **تہذیب الاسماء واللغات**۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1996ء۔
151. **ہناد**، ہناد بن سری کوفی (152-243ھ)۔ **الزهد**۔ کویت: دار الخلفاء للكتاب الاسلامی، 1406ھ۔
152. **ہیشمی**، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (735-807ھ / 1335-1405ء)۔ **مجمع الزوائد**۔ قاہرہ، مصر: دار الریان للتراث + بیروت، لبنان: دار الكتاب العربی، 1407ھ / 1987ء۔
153. **ہیشمی**، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (735-807ھ / 1335-1405ء)۔ **موارد الظمان الی زوائد ابن حبان**۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔